

بسم الله الرحمن الرحيم

سَيِّدَ كُرُّ مَن يَخْشَى

فلاح دارین

جلد دوم

بيانات

مشهور مفسر قرآن، الحاج حضرت مولانا محمد فاروق صاحب بڑودوی مدینی
دامت برکاتہم، استاذ تفسیر و حدیث جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوامہارا شستر
پسند فرمودہ

استاذ الاساتذہ حضرت مولانا سید ذوالفقار احمد صاحب نزوری قاسمی ”

سابق شیخ الحدیث جامعہ فلاح دارین ترکیسر (گجرات)

مرتب

محمد بلاں اشاععی ساتوانوی

جملہ حقوق بحق مرتب محفوظ ہیں

نام کتاب : فلاح دارین (جلد دوم)

ضبط و ترتیب : محمد بلال اشاعتی ساتونوی۔

بار اشاعت : دوسری مرتبہ ۱۴۳۶ھ

اگست 2015

تعداد اشاعت : 2200

قیمت : Rs. 100

ملنے کے پتے

(۱) حضرت مولانا مفتی محمد عارف صاحب 9898171655

(۲) مولانا محمد یحییٰ صاحب نندور باری 9673156472

(۳) محمد بلال اشاعتی ساتونوی (مرتب) 9405060763

صفحہ نمبر	فرہست مضمومین	نمبر شمار
24	نفس، انسان کا خطرناک دشمن ہے	1
25	ماہ رمضان کا مقصد کیا ہے	2
26	اندر کا دشمن خطرناک دشمن	3
26	پہلے قریبی دشمن کو ختم کرو	4
28	آپ ﷺ نے بھی پہلے اندر ورنی دشمنوں سے مقابلہ فرمایا	5
29	نفس کا پہچاننا آدمی کو قیمتی بنادیتا ہے	6
30	برائی کی نسبت دوسروں کی طرف نہ ہوگی	7
30	اللہ تعالیٰ کا عذاب عام ہوتا ہے	8
32	نفس میں اللہ تعالیٰ نے دو با تین پیدا فرمائی ہیں	9
32	پہلے ہمیں نفس پر محنت کرنی ہوگی	10
33	کامیاب نفس بڑا مہنگا اور قیمتی ہوتا ہے	11
33	مقصد رمضان تقوی ہے	12
34	اپنی نیت کو درست کریں	13

دنیا کی بے شباتی اور اس میں زندگی گزارنے کے طریقے

37	دنیا میں اجنبی بن کر رہو	14
37	مسافر ڈر کر اور نجک کر رہتا ہے	15
38	راستے گزرنے والے کی طرح رہو	16
39	دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے	17
39	قید خانہ مرضی کے خلاف ہوتا ہے	18
40	دنیا جیل خانہ کسی گناہ کا عوض نہیں ہے	19
42	حالات برائے رفع درجات	20
43	دنیا کی نعمتیں سب کے لئے ہیں	21
43	رحمٰن اور حیم کے درمیان فرق	22
44	دنیا کافر کے لئے جنت ہے	23
45	ہم زمانہ کو اپنے ساتھ چلائیں	24
46	زمانہ کو گالی مت دو	25
47	کتاب و سنت کی رہبری	26
47	زیادتی مال مرضی مولی کا معیار نہیں ہے	27

48	قبستان جا کر صحابہ کرامؐ کی حالت	28
49	پہلے ہی سے قبر کھدوانے کا واقعہ	29
50	دنیا باعث ٹینشن ہے	30
51	دنیا زریعہ ہے اس کو مقصد نہ سمجھیں	31
سورہ انعام کی فضیلت		
55	جتنا بڑا مہمان اتنی ہی بڑی رخصتی	32
56	سورہ انعام کی فضیلت کی وجہ	33
57	علی الاعلان تو حید کرنے کا حکم ہے	34
58	اسلام کے بیسک کو ذکر کیا گیا	35
59	اللہ تعالیٰ کی قدرت کو چلنے نہیں کرنا چاہیے	36
60	اسلام ان ساری باتوں کو توڑ دیتا ہے	37
60	اللہ تعالیٰ لفظ، کن، کے بھی محتاج نہیں ہے	38
61	سورہ انعام کی ہائی لائٹ	39
62	دنیا کا مزہ کتنی دیر کا ہے؟	40
63	اپنے آپ کو سنبھالنے والا کامیاب ہے	41
64	اس سورۃ میں ایک بڑے مسئلہ کا حل ہے	42

65	اللہ تعالیٰ کا معاملہ محبت والا معاملہ ہے	43
66	حضور ﷺ کو اگلے اور پچھلے سب کا علم تھا	44
67	صحابہ کرام نے سوالات ہمارے لئے فرمائے	45
67	حالات انابت پیدا کرنے کے لئے آتے ہیں	46
68	حالات سنکر عمل نہ کرنا منافقوں کی عادت ہے	47
69	دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں	48
70	عدم انابت دل کی سختی کے سبب ہوتی ہے	49
71	واقعہ	50
72	جام و طرح کے ہوتے ہیں	51
73	اچھائی کو مدنظر رکھیں	52
73	حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کا ملفوظ	53
74	دو چیزوں سے دل سخت ہو جاتے ہیں	54
75	دل کی سختی کیسے دور ہو گی	55
75	بد نظری دل کی سختی کا باعث ہے	56
اصحاب اعراف		
78	اعراف کیا چیز ہے؟	57

79	وزن برجت ہے	58
80	وزن کے لئے شیعہ کاظم آنحضرتی نہیں ہے	59
80	وزن کس کا کیا جائے گا	60
81	حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کا واقعہ	61
82	دوسرا قول وزن اعمال کا ہوگا	62
83	ہم ہر چیز کو اپنی عقل پر نہ جانچیں	63
84	وزن کے مسئلہ کو سائنس نے آسان کر دیا	64
85	اعراف پر کون لوگ ہوں گے	65
86	اصحاب اعراف کا جہنمیوں سے سوال	66
86	جنتی حضرات کا جہنمیوں سے سوال	67
87	اہل جنت نعمتوں میں ہوں گے	68
88	کینہ نکلنے کی دعا	69
89	جنتیوں سے جہنمیوں کی فریاد	70
89	جنت کی چیزیں کافروں پر حرام ہے	71
90	پانی کے بغیر زندگی کا گزارانا ممکن	72
90	انسان کی ابتدائی غذا بھی پانی ہی ہے	73
91	بچپن میں دانت کیوں نہیں ہوتے؟	74

91	انسان کو دو دفعہ دانت دینے کی حکمت الٰہی	75
93	لباس کا مقصد ستر چھپانا ہے	76
93	چست کپڑے مکروہ تحریکی ہے	77
94	عورت کا چہرہ ستر میں داخل ہے	78
94	بے پرده عورت کا انجام	79
95	پینٹ کیسا پہنیں؟	80
96	عزت صرف اللہ کے دین ہی میں ہے	81
96	با پرده خاتون کی عزت ہوتی ہے	82
97	لباس کا دوسرا مقصد ریخت ہے	83
97	نماز کے لئے صاف ستھرے ہو کر جائیں	84
98	نبی کریم ﷺ اور صحابہ نے بغیر طوپی کے نمازوں میں پڑھی	85
دنیا بقدر ضرورت ہونی چاہئے		
100	رنگ ٹوں کے لئے اذان وغیرہ رکھنا	86
101	موبائل میں گانا وغیرہ سیٹ کرنا	87
102	عوالیٰ پر آپ ﷺ کا گزر	88
103	مردار بکری سے سبق	89

105	صحابہ کرام کا عقلمندانہ جواب	90
105	آپ ﷺ کی تربیت	91
106	دنیا بکری سے بھی کمتر	92
106	شریعت اسلامی میں عقل کو دخل نہیں	93
107	محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو	94
108	واقعہ	95
109	افضل صدقہ	96
110	سکرات کے وقت کا صدقہ قبول نہیں	97
110	قوانین اسلام میں ہی فوائد ہیں	98
111	اشیاء کا اثر انسان کی ذات پر پڑتا ہے	99
112	مردوں کے لئے ریشم کی ممانعت کا حکمتی پہلو	100
113	آپ ﷺ بہترین کمانڈر تھے	101
113	دنیا کی طرف تھوڑا سا میلان بھی برداشت نہیں	102
116	دنیا بقدر ضرورت ہو	103
	غزوہ تبوک، احوال و کوائف	
119	ہوا کے رخ پر چلنا منافقین کا شیوه ہے	104

119	حضور ﷺ کے دور میں بھی وہ جماعت تھی	105
120	غزوہ تبوک کے وقت منافقین کا بہانہ	106
120	آپ ﷺ کو منافقین کا علم تھا	107
121	عمر فاروقؓ کا قتل کی اجازت مانگنا	108
121	چند صحابہ کرام بھی غزوہ میں نہیں جاسکے	109
122	عقلمند آج کا کام مکمل پر نہیں ٹالتا ہے	110
123	نیک کام فوراً شروع کر دیں	111
123	جلد بازی بھی نہ کریں	112
124	کسی بھی کام میں پہلے غور و فکر کر دیں	113
125	نیک کاموں میں مشورہ نہیں ہے	114
125	بہر حال تین صحابہ رہ گئے	115
126	اٹالی کا امپائر بھاگ گیا	116
126	حضور ﷺ کو پانچ خصوصیتیں دی گئی تھیں	117
127	ایک سوال اور اس کا جواب	118
128	عزت قبول حق کے لئے رکاوٹ بنتی ہے	120
128	سجدہ میں ناک کیوں رگڑوائی	121
129	آج مسلمان ذرا سی قیمت پر بک جاتا ہے	122

129	صحابہ نے گئی بات کہہ دی	123
130	تینوں صحابہ کرام کے لئے آپ ﷺ کا اعلان	124
131	پچھاں رات تک بائیکاٹ کی وجہ	125
131	ان حضرات کے لئے زمین ٹنگ ہو چکی تھی	126
132	سچ بولنے کا انعام	127
132	تینوں حضرات کا تذکرہ خاص طور پر فرمایا	128
133	دل کی شرمندگی کا نام ہی توبہ ہے	129
133	خوشخبری سنانے والے کو ہدیہ دینا سنت ہے	130
134	ان حضرات کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم	131
134	سچ آدمی کو نجات دلاتا ہے	132
135	سچ کے ذریعہ ایک صحابیؓ کی تربیت	133
136	آپ ﷺ کا مل ڈاکٹر تھے	134
136	پھول کی صحبت سے تقویٰ ملتا ہے	135
137	اہل اللہ کی صحبت سے آدمی کامل بنتا ہے	136
137	رجالِ اللہ ہر زمانہ میں آئے ہیں	137
138	انسان ہی انسان بناتا ہے	138
139	ہم غیروں کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں	139

140	زہر اللہ والوں کی دوری کی بناء پر ہے	140
140	قرآن پاک کا ترجمہ ضروری ہے مگر.....	141
141	اپنی عقل سے سمجھنے والا مگر اہوجاتا ہے	142
141	اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کی مثال	143
142	گھر بیٹھنے آدمی ڈاکٹرنیہیں بن سکتا ہے	144
143	اپنے بچوں کو اللہ والوں سے جوڑو	145
143	دعوت تبلیغ بہترین اصلاحی عمل ہے	146
144	اکیلا اندھا گندہ اہوجاتا ہے	147
144	حضرت مولانا اسعد صاحب مدفیٰ کا المفوظ عالی	148
145	بچوں کے ساتھ رہنے سے انسان سچا نہ تا ہے	149
145	بچوں کو ہم کہاں ڈھونڈیں	150
	اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا	
148	جزیہ اسلام نہ لانے کی سزا نہیں ہے	151
149	زبان سے کلمہ پڑھنے والا محفوظ ہے	152
150	حضرت معاذ بن جبلؓ کو آپ ﷺ کی وصیت	153
150	حضرت ابو بکرؓ کا استدلال	154

151	اسلامی ملک میں اسلامی اصول ہو گئے	155
151	جز یہ نہ دینے والے کا حکم	156
152	آپ ﷺ کا حضرت ابو عبیدہؓ کو حکم	157
152	ایک صحابیؓ کا واقعہ	158
153	بھریں والوں کے ساتھ صلح	159
154	اہل خبر کی آپ ﷺ سے درخواست	160
154	ابو عبیدہؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آتے ہی صحابہ کرام خوش ہو گئے	161
157	آپ ﷺ کا جواب	162
157	آپ ﷺ کا میا ب استاذ بھی تھے	163
158	آپ ﷺ کی رزق کے بارے میں پیشین گوئی	164
اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے		
162	ہماری غفلت کی وجہ	165
162	ہو امیں اللہ تعالیٰ کی قدرت	166
163	فون والوں کی کمالی صرف ملائی	167
164	اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر لفظ حفظ ہوتا ہے	168
165	اعضاء کا انسان کو جواب	169

166	انسان غلط فہمی میں بنتا عنہ ہو	170
166	جدید دور نے ہمیں سمجھا دیا ہے	171
167	پانچ چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے	172
167	علامات قیامت تین طرح کی ہیں	173
168	اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی	174
169	اللہ تعالیٰ حمل کو بھی جانتا ہے	175
170	اولاد کی پیدائش کیلئے منور نسخہ اور واقعہ	176
171	ہمیں نامید ہونے کی ضرورت نہیں ہے	177
172	نبیوں کی دعا قبول ہونے میں بھی دیرگی	178
173	دوبیٹوں کے فرق میں خدا کی قدرت ہے	179
174	اللہ ہی سے ڈریں	180
175	غفلت مومن کیلئے موت ہے	181
175	اصل پیغام	182
176	محلک بیماری سے بچنے کی دعا	183
176	اشرکا دار و مادیقین پر ہے	184
177	ایک صحابیؓ کا واقعہ	185
178	اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں	186

178	جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا	187
179	فرشتوں کے ذریعہ حفاظت فرمانے کی وجہ	188
180	غفلت ہو تو شیطان کھیر لیتا ہے	189
	جزائے سینیات کسی قدر دنیا میں بھی ملتی ہے	
182	ایک غلط فہمی کا ازالہ	190
183	ہم اپنا وہم دور کریں	191
184	امم سابقہ کے واقعات	192
184	ہر تغیر سے صد آتی ہے فا فہم فا فہم	193
185	قوم نوح (علیہ السلام) پر دنیا میں عذاب	194
185	کشتی بنانے کا حکم	195
186	ظالموں کے حق میں صالحین کی دعا کا فائدہ نہیں	196
186	متقیٰ مومن ہی ال رسول ہوتا ہے	197
187	سورت کا سیلا ب حادثہ	198
188	قوم عاد کا واقعہ	199
188	عاد کی ہائٹ	200

189	طااقت ان کو عذاب الہی سے نہیں بچا سکی	201
189	قوم شمود کا واقعہ	202
190	اللہ تعالیٰ کی قدرت	203
190	پانی پینے کی باری	204
191	اونٹھ کا قتل اور عذاب الہی	205
192	حضرت لوط کی قوم کا واقعہ	206
192	قوم شعیب کا واقعہ	207
193	نام توں میں کمی پر وعید	208
194	ڈیوبی میں کوتا ہی مت کرو	209
195	آپ ﷺ کی پیشین گوئی	210
195	اس دور کا حل بھی ارشاد فرمایا	211
196	قوم شعیب پر عذاب الہی	212
196	داعی کے لئے اہم سبق	213
197	ماں باپ کے نافرمان کو سزا	214
198	بد نظری کی سزا بیس سال بعد عملی	215
198	بیوی کو ستانے کی سزا فرمائی	216
199	اللہ کی پکڑ کی تین شکلیں	217

199	نکیر کے ذریعہ سزا دینے کا مطلب	218
200	تاخیر والا عذاب	219
200	تیسرا سزا ندیم	220
201	ایک سنار کا واقعہ	221
202	ایک بادشاہ کا اس واقعہ پر تحریک	222
203	ہمیں سنبھال لیا گیا	223
	دنیا آنے کے بعد مسلمانوں کا کیا حال ہو گا	
207	دنیا آنے کے بعد کی آفتیں	224
207	تنافس کا مطلب	225
208	دوسرامحلہ حسد	226
209	حسد نکیوں کو ختم کر دیتا ہے	227
209	حسد اور رشک میں فرق	228
209	ایک دوسرے کی محبت ختم ہو جائے گی	229
210	دنیا کی کثرت رشتہ داریاں ختم کر دیتی ہے	230
211	محبت آنے جانے سے بڑھتی ہے	231

211	دنیا کی کثرت آپسی دشمنیوں کو جنم دیتی ہے	232
212	شکرگزار بننے کا طریقہ	233
214	پہلا فائدہ۔ ہمدردی پیدا ہوتی ہے	234
214	مالدار لوگوں کو دیکھنے کا نقصان	235
215	شکرگزار بننے کا دوسرا طریقہ	236
215	ماضی کو یاد نہ کرنے والا ملتکبر بن جاتا ہے	237
216	وراثت میں برکت ہے	238
216	عورت مرد کی مشابہت نہ اختیار کرے	239
218	مرد عورت کو خلاف شرع پر مجبور نہ کریں	240
219	ہمیں ایک دوسرے کی فکر کرنی ہوگی	241
219	بنی اسرائیل کے تین افراد کا واقعہ	242
220	تینیوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام	243
222	فرشتہ کا آزمائش کے لئے دوسرا دورہ	244
222	کوڑھی کا جواب	245
223	گنجے کا جواب	246
224	اندھے کا جواب	247
225	اس حدیث پاک کے ذریعہ عبرت	248

225	ہم بھی پہلے غریب ہی تھے	249
225	غربوں کو حیرت جانو	250
	پر فتن دور میں ہم کیا کریں؟	
229	حضرت سعد کا جواب	251
229	دوسری صفت غناہ	252
230	شریعت ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی	253
231	چوتھی نصیحت	254
231	شہرت پسند حضرات کا انجام	255
232	فتنوں کے دور میں کیا کرنا چاہیے	256
233	پر فتن دور کی علامات	257
234	نیم حکیم خطرہ جان	258
234	ہماری شریعت سستی نہیں ہے	259
235	زمانہ کے اعتبار سے چنانا معتزلہ کی سوچ ہے	260
235	شریعت تمام احوال کو دیکھ کر متعین کی گئی	261
236	عورت کی نماز گھر میں ہی افضل ہے	262
237	حضرت عائشہؓ کا فرمان	263

237	حضرت عائشہ زیادہ سمجھتی تھی نہ کہ ہم لوگ	264
238	ہمارے اسلاف کو عورتوں سے نفرت نہیں تھی	265
238	آپ ﷺ کی دوراندیشی	266
239	جدید تہذیب اور حضرت حذیفہ	267
240	صلیبیوں کی سازش سے ہوشیار ہیں	268
241	اسلام نئی اور پرانی ہونے والی چیز نہیں ہے	269
241	آپ ﷺ کے ہی طریقہ میں نور ہے	270
242	قیامت کا انتظار کجھے	271
242	عورتوں کے مسجد نہ آنے پر ایک قوی دلیل	272
243	حج میں عورت کہاں نماز پڑھے	273
243	عورت تو گھر ہی کی زینت ہے	274
	دنیا اپنے کو ج کا اعلان کر چکی ہے	
247	موت کو بھی موت آجائیگی	275
248	جنت کا داخلہ ابدی داخلہ ہے	276
248	گنہگار مؤمنین کے لئے وقت جہنم ہو گی	277
249	آدھاب دن خوبصورت اور آدھا کالا	278

249	خدا تعالیٰ کی شان رسمی	279
251	گناہ کا اقرار انسان کی خوش نصیبی ہے	280
252	گناہ کا اقرار اگناہ کو ختم کر دیتا ہے	281
253	اعتراف معرفت کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے	282
253	جہنم کی حقیقت	283
253	کچھ تذکرہ جنت کا بھی	284
254	آپ ﷺ کی سفارش پر جہنم سے نجات	285
254	صحابہ کرامؓ کی قربانیاں	286
255	بی بی فاطمہ کے گھر کے پردے پر نار انگی	287
256	ڈیکوریشن میں اتنا مال نہیں لگانا چاہیے	288
257	قربانیاں وقتی طور پر ہوتی ہیں	289
257	بزرگوں کی ابتدائی زندگی کو دیکھنا چاہیے	290
	حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ	
260	حضرت عمرؓ کا ہدیہ بھیجننا	291
261	ہدیہ لے کر حضرت سعید بن عامرؓ کا حال	292

263	فقیری میں بادشاہی	293
263	حضرت عمرؓ کا حرص شہر کا دورہ	294
265	آپ رضی اللہ عنہ سے متعلق شکایتیں اور ان کے جوابات	295
269	مال کا حساب بھی دینا ہوگا	296
270	اور گنگ زیبؒ کا واقعہ	297
271	فکری انقلاب کردار کو بلند کرتا ہے	298

بسم الله الرحمن الرحيم

افتباں

اہل اللہ کی نظر ایک ایک جملہ پر جاتی ہے ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی چند دنوں پہلے ایک بہت اچھی تنبیہ فرمائی، وہ ختم بخاری شریف کی ایک تقریب میں تشریف لائے تھے، سورت کے سیلا ب کا حادثہ حضرت بیان فرمار ہے تھے تو فرمایا کہ مسلمان اپنے آپ کو پہچانتا نہیں ہے، اور اپنے گناہوں کا اعتراض کرنا نہیں چاہتا اسلئے بیٹھے بیٹھے کہتا ہے کہ ہمارے اوپر حالات آر ہے ہیں حضرت نے فرمایا کہ حالات تو اہل اللہ پر آتے ہیں ہم سید ہے سید ہے اس بات کا اقرار کر لیں کہ یہ حالات نہیں ہیں، یہ تو ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

نفس، انسان کا خطرناک دشمن ہے

الحمد لله نحمدہ ونستعينہ ونستغفرہ ونومن به ونتو کل
علیہ؛ ونعود بالله من شرور انفسنا ومن سیاست اعمالنا. من يهدہ اللہ
فلا مضل له ؛ و من يضلله فلا هادی له ؛ و نشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ
لا شریک له و نشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبده و رسوله، صلی
اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ و علی الہ واصحابہ و بارک و سلم تسليما
کثیراً کثیراً؛ اما بعد فاعو ذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله
الرحمن الرحيم؛.

وَنَفْسٌ وَّمَا سَوَاهَا، فَاللَّهُمَّ هَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَّكَّا هَا وَقَدْ
خَابَ مَنْ دَسَّهَا؛ وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَ إِيمَانًا
وَاحْتِسَابًا غُفْرَانَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبٍ؛ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ
النَّبِيُّ الْكَرِيمُ؛ وَنَحْنُ عَلَى ذَالِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ
لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينِ:-

معزز بھائیو، بزرگو، اور دوست!

اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اسکی نظر انتخاب کا نتیجہ ہے کہ مجھے اور آپ کو دوبارہ ہماری روحانیت اور نفسانیت کی بیڑی چارچ کرنے کے لئے ایک مبارک مہینہ ماہ رمضان عطا فرمایا ہے اس مہینہ کا مقصد بھوکا پیاسار ہنا اور عام رسم (normal routine) کی طرح روزے رکھ کر صبح و شام گزر دینا اور بسر کر دینا نہیں ہے۔

ماہ رمضان کا مقصد کیا ہے؟

دنیا اپنے اپنے نظریہ اور سوچ کے اعتبار سے اس مہینہ کا مقصد تلاش کرتی ہے فیلوسفی کو اسیں فلسفہ نظر آتا ہے، ڈاکٹری کی نظر سے دیکھنے والے کو اسیں طبی فائدے نظر آتے ہیں، جیسی جیسی جسکی نظر ہوتی ہے ویسے ہی اسکی اپنی سوچ ہے، ویسے ہماری گجراتی میں کہا جاتا ہے جسکی آنکھ پیلی ہو، اسکو ہر چیز پیلی ہی نظر آتی ہے، جس نے جیسا چشمہ لگایا اسکو دیسا ہی نظر آتا ہے، لیکن بندہ مومن جو اللہ کا غلام ہو، وہ اپنی عقل، اور کسی فلسفہ کا یا کسی میڈیکل اور کسی سائنس کا غلام نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا غلام ہوتا ہے، اور وہ اسکا مقصد حکم الحکیمین سے ہی پوچھتا ہے کہ روزہ کا جو مقصد تو نے متعین کیا وہ کیا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے؟ جو تو نے بیان کیا بس وہی صحیح اور وہی اصل ہے، چاہے دنیا اس میں فائدے بیان کرتی ہو یا نہ کرتی ہو، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں، اور قرآن پاک نے جو مقصد بیان کیا وہ آیت دوسرے دن کی تراویح میں گزر چکی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، **بَأَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ**

عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اسکا مطلب کچھ اس طرح ہے کہ رمضان کا اصل مقصد تقوی اور پرہیز گاری ہے، اور وہ اس لئے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے اسکے ساتھ اسکا سب سے بڑا دشمن نفس لگادیا ہے جو اسکے بہت قریب رہتا ہے۔

اندر کا دشمن، خطرناک دشمن

اور یہ اندر کا دشمن بڑا خطرناک دشمن ہے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، والی کہاوت مشہور ہے باہر کے دشمنوں سے نہ مٹانا آسان ہوتا ہے، لیکن اندر وہی دشمنوں سے نہ مٹانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لئے ہر ملک میں باہر کی فوج (forces) اتنی مضبوط نہیں ہوا کرتی ہے جتنی اسکے اندر کی فوج مضبوط ہوا کرتی ہے، کسی بھی ملک کی داخلی سیاست اور اندر وہی علاقائی سیاست زیادہ مضبوط ہونی چاہیے، اگر اندر کا دشمن پنپتا ہے اور اندر وہی طور پر دشمنیاں پنپتی ہیں تو پھر باہر کے دشمنوں سے لڑنا زیادہ اہم نہیں ہوتا ہے، بلکہ پورے ملک کو اندر وہی دشمن تباہ کر دیتا ہے انسان کا ایک دشمن تو باہر کا دشمن ہے، جسکو شیطان کہا جاتا ہے، لیکن ایک انسان کے اندر کا دشمن ہے جس کو ہم نفس کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور یہ اسکا بہت قریبی دشمن ہے بالکل اسکے ساتھ رہتا ہے۔

پہلے قریبی دشمن کو ختم کرو

اسی لئے مفتی عظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ جو پہلے دیوبند اور اسکے بعد پاکستان منتقل ہوئے تھے، انہوں نے سورہ توبہ کی تفسیر کرتے ہوئے ایک

بڑی پتہ کی اور قیمتی بات لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَإِذْلُو
الَّذِينَ يَلْوَنُكُم مِّنَ الْكُفَّارِ۔ اے ایمان والو! تم قاتل کرو اُن کافروں سے جو
تمہارے قریب رہتے ہیں اس آیت پاک کے ضمن میں حضرت مفتی صاحب نے لکھا
ہے کہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ پہلے قربی دشمن کو ختم کرو، اور انسان کا سب سے قربی
دشمن اس کا اپنا نفس ہے، لہذا پہلے اس کو مارو۔

جناب نبی اکرم ﷺ نے اسلامی نظام چلانے کے لئے ایک بہترین مددیر بیان
فرمائی، اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن نے کہا کہ پہلے قربی دشمن سے لڑو، پھر
اس سے دور، پھر اس سے دور۔ اور حضرت نے اس سے اصلاح نفس پر استدلال فرمایا
حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ قربی دشمن انسان کا کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اسکا اپنا
نفس ہے، اور قرآن کی آیت کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے، اور ایک باطنی معنی ہوتا ہے،
سرسری اور ظاہری مطالعہ کرنے والے والے کو آئیوں کا ظاہری معنی اور مطلب ہی سمجھ
میں آتا ہے۔

لیکن جوار باب بصیرت ہیں، جن کے دلوں کو اللہ نے کھولا ہوا ہوتا ہے، جنکے قلب پر
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نظر ہوتی ہے، انہیں قرآنی علوم کے چشمے چھوٹے
نظر آتے ہیں، انہیں قرآن کے اندر حقائق نظر آتے ہیں، ہمارے علماء کو اسمیں یہ
حقیقت نظر آتی ہے کہ قرآن پاک میں سیاست (Politics) کا بھی بیان ہے جنگ
اور لڑائی کے لئے باہر کے دشمنوں سے توبعد میں نہ مُننا چاہئے پہلے اندر ونی دشمنوں سے
نہ مُننا چاہئے۔

آپ ﷺ نے پہلے اندر ونی دشمنوں سے مقابلہ فرمایا اور جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور ﷺ نے یہود کا مقابلہ بعد میں کیا، نصاری کا مقابلہ بعد میں کیا، مجوس کا مقابلہ بعد میں کیا، سب سے پہلے اگر کسی کا مقابلہ کیا تو وہ کفار عرب تھے جن کا مقابلہ آپ ﷺ نے سب سے پہلے کیا جس کو غزوہ احمد، غزوہ خندق، غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، اسکے علاوہ جتنی بھی جنگیں شروع شروع میں لڑی گئیں یہ اندر ونی دشمنوں سے ہی لڑی گئیں، اور باہر کے دشمنوں سے بہت بعد میں جنگ ہوئی، مثلاً بنو قریظہ، بنو نضیر، بنو قیقاع، ان سب کا معاملہ بعد میں پیش آیا اور تبوک کی طرف تو بہت بعد میں آپ ﷺ نے نگاہ ڈالی ہے، بلکہ آپ ﷺ نے اپنی زندگی کے بالکل اخیر اخیر مرحلہ میں ادھر توجہ فرمائی، مجھے اصل میں یہ بتانا ہے کہ ہمارا سب سے قریبی دشمن جو ہمارے اندر ہے اور ہمارے پاس چوبیں گھنٹہ رہتا ہے وہ ہمارا نفس ہے۔

پہلے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، بلکہ یوں کہیئے، اللہ کرے کہ یہ بات صحیح ہو، کہ نفس اتنا خطرناک دشمن ہے کہ رمضان کے مہینے میں یہ ونی دشمن یعنی شیطان کو تو باندھ دیا جاتا ہے لیکن نفس کو نہیں باندھا جاتا ہے یہ تو ساتھ میں ہی لگا رہتا ہے، اسکے اوپر کسی کی پکڑ نہیں، اگر اسکے اوپر کوئی پکڑ کر سکتا ہے، تو صرف انسان ہی پکڑ کر سکتا ہے، تو یہ نفس انسان کا بڑا خطرناک دشمن ہے یہ انسان کو انسان بھی بناسکتا ہے، اور یہی انسان کو انسانیت سے اتار کر حیوانیت پر بھی لاسکتا ہے، آپ اسلام کی تاریخ کو پڑھئے کہ جس نے بھی اپنے نفس کی اصلاح کی اللہ تعالیٰ نے اسے کامیاب فرمایا اور وہی دارین میں کامیاب ہوا، اور اسکی وجہ یہ نفس بنا۔

نفس کا پہچاننا آدمی کو قیمتی بنادیتا ہے

اسی نفس نے حضرت آدم کو تو بہ کرنے پر آمادہ کیا، انہوں نے اپنے نفس کو بنایا تھا انہوں نے اپنے نفس کی صفائی کی تھی انہوں نے اپنے نفس کو پہچانا تھا اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ انہوں نے اپنے نفس کو پہچانا تھا کہ نفس کتنا بڑا خطرناک دشمن ہے یہ نفس کہاں سے اتار کر مجھ کو کہاں پھینک سکتا ہے، اور کہاں سے اٹھا کر مجھ کو کہاں پھونچا سکتا ہے، یہ سب باقی حضرت آدم نے سمجھی تھیں، اسی لئے تو حضرت آدم نے ہونے والی غلطی کی نسبت خود اپنی طرف کی، اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں فرمائی، انہوں نے فرمایا، **رَبَّنَا ظَلَمْنَا النُّفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَ نَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَمَا هَمَارَ رَبَّ هَمَارِي اس غلطی کو معاف فرمایا۔ اور اس کے بال مقابل شیطان نے غلطی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی اس نے کہا، **فِيمَا أَغْوَيْتَنِي لَا قَعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطُكَ الْمُسْتَقِيمَ**، وہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ آپ نے جو مجھ کو گمراہ کیا تو میں آپ کے بندوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا، دیکھتے شیطان نے اپنی غلطی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ﴿نَعَوْذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَالِكَ﴾ اور حضرت آدم فرمایا ہے ہیں کہ اے اللہ میں نے جو غلطی کی اس کو آپ معاف فرمائیے، دونوں میں فرق ہے، اور یہ فرق نفس کو پہچاننے اور نہ پہچاننے کا ہے، جب انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا اعتراف کرتا ہے، اور اپنے نفس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، اپنے نفس کی حقیقت اس کے سامنے آتی ہے، تو پھر وہ کسی بھی غلطی کی نسبت دوسروں کی طرف نہیں کرتا، بلکہ اپنی طرف کرتا ہے آج کل یہ خرابی ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہے۔**

برائی کی نسبت دوسروں کی طرف نہ ہو گی

اہل اللہ کی نظر ایک ایک جملہ پر جاتی ہے، ہمارے استاذ مختوم حضرت مولا ناسید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی چند دنوں پہلے ایک بہت اچھی تنبیہ فرمائی، وہ ختم بخاری شریف کی ایک تقریب میں تشریف لائے تھے، سورت کے سیلا ب کا حادثہ حضرت بیان فرمائے تھے۔ تو فرمایا کہ مسلمان اپنے آپ کو پوچھتا نہیں ہے، اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا نہیں چاہتا اسلئے بیٹھے بیٹھے کہتا ہے کہ ہمارے اوپر حالات آرہے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ حالات تو اہل اللہ پر آتے ہیں، ہم سید ہے سید ہے اس بات کا اقرار کر لیں کہ یہ حالات نہیں ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے بہت اچھی بات ارشاد فرمائی۔

حالات یہ تو اہل اللہ پر ان کے درجات بلند کرنے کے لئے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ذات سے قریب کرنے کے لئے ان پر حالات لاتا ہے، حالات گنہگاروں پر نہیں آتے ہیں، گنہگاروں کو تو صاف صاف اس بات کا اعتراف اور اقرار کر لینا چاہیے کہ ہم نے نفس پرستی کی، ہم نے اپنی من مانی کے مطابق زندگی کو ڈھالا، خدا نے ہمارے کرتوتوں کی سزادی، اور جب سزا آتی ہے تو وہ عام آتی ہے اسیں اچھے لوگ بھی بتلاء ہو جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا عذاب عام ہوتا ہے

حضرت عائشہؓ کی روایت امام مسلمؓ نے نقل فرمائی اس میں حضور اکرم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا، کہ يَغْرُو جَيْشُ الْكَعْبَةَ، ایک لشکر کعبۃ اللہ پر چڑھائی کریگا، فَإِذَا كَانُوا بِيَدِهِ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوْلِهِمْ وَآخِرِهِمْ : جب وہ لوگ سرز میں کے ایک مخصوص حصہ پر، یا چیل میدان میں پہنچیں گے تو سب کو دھنسا دیا جائیگا، حضرت عائشہؓ نے ہمارے لئے بڑا قسمی سوال اور بڑے کام کی بات فرمائی، حضرت عائشہ صدیقہؓ نے فرمایا کہ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوْلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ؟ او کَمَا قَالَتْ كہ یا رسول اللہ سب کو کیسے دھنسایا جائیگا؟ جبکہ ان میں کے کچھ لوگ بیچارے تجارت کے لئے نکلتے ہیں جب کوئی لشکر کہیں حملہ کرنے کیلئے روانہ ہوتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک حملہ کے لئے ہی نکلے، کچھ تو دوکان کے لئے نکلتے ہیں کچھ تجارت کرنے کے لئے نکلتے ہیں تو اے اللہ کے رسول ﷺ بہت سے لوگ کعبہ پر حملہ کی نیت سے نہیں نکلے ہو گے، پھر سب کے سب کو کیسے دھنسایا جائیگا؟

حضور اکرم ﷺ نے اللہ کی سنت اور اللہ کی عادت اور اللہ کے نظام کی طرف اشارہ فرمایا کہ سب کے سب کو دھنسایا جائیگا ہاں یہ بات اور ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک کو اپنی اپنی نیت کے اعتبار سے اٹھایا جائے گا پتہ چلا کہ جب آفت یا کوئی مصیبت آتی ہے، اللہ کی کپڑ آتی ہے، تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اسیں کون بزرگ ہے، اور کون کیا ہے، ہر ایک کو اسکی لپیٹ میں لے لیا جاتا ہے، میں اصل میں یہ بتلانا چاہتا ہوں میرے بھائیو کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے ہمارا بڑا دشمن شیطان تو بعد میں ہے، سب سے بڑا اور سب سے خطرناک جو دشمن ہے وہ انسان کا اسکا اپنا نفس ہے، جو ہمیشہ اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔

نفس میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں پیدا فرمائی ہیں

اور اسی نفس میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں پیدا فرمائی ہیں **فَالْهَمَّهَا فُجُورُ رَهَا وَتَقْوَا هَا، نَبْرَا** یک نفس میں فرق و فجور یعنی گناہ کرنے کا جذبہ اللہ کی نافرمانی کرنے کا مادہ بھی پیدا کیا گیا ہے، اور دوسرا مادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا بھی ہے جسکو فرمایا، وَتَقْوَا هَا اب جیسے اسکو ما نجھا جائیگا جیسے اسکو بنایا جائے گا، جیسے صیقل کیا جائیں گا وہ اسی کے مطابق ہوگا، ہیرا سمندر سے پتھر کی شکل میں نکالا جاتا ہے لیکن اگر اسکو ما نجھ کر بنایا جاتا ہے، رگڑا جاتا ہے اور اچھی خاصی اس پر محنت کی جاتی ہے تب وہ چمکتا ہے۔

پہلے ہمیں نفس پر محنت کرنی ہوگی

میرے بھائیو۔ پہلے ہمیں اپنے نفس پر محنت کرنی ہوگی اس کو صاف کرنا پڑیگا اسکے اوپر کا میل کچیل دور کرنا پڑیگا، تب جا کروہ چمکے گا سونے (Gold) کی حقیقت آپ جانتے ہو نگے کہ سونے کی حقیقت کیا ہے؟ سورج جب صحیح میں نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے ان دونوں وقت اس کارنگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑا تھوڑا اتبديل ہوتا ہے، ڈوبتے وقت اس کارنگ گولڈن ہوتا ہے، پھر وہ اوپر آتا ہے، اسکے بعد ہمارے ریسرچ کرنے والے محققین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو اسکی بعض شعاعیں سیدھی سمندر کے پانی کے بعض قطروں پر جاتی ہیں اور ان قطروں کے واسطے سے سمندر کے اندر جو جگہ ہوتی ہے اس پر وہ شعاعیں گرتی ہیں بس اس سے سونا تیار ہوتا ہے اسی طرح یہ کھلا ہوا میدان، پہاڑ، اور چیل بیباں ہوتے ہیں اور مٹی کے جو بعض ذرات ہوتے ہیں اسکے اوپر راست جب سورج کی شعاعیں جاتی ہیں تو اس سے سونا تیار ہوتا ہے، بہر حال سونا زمین سے اور مٹی سے نکلتا ہے۔

لیکن پہچاننے والے ہی اسکو پہچان سکتے ہیں ہر ایک کو نہیں معلوم کہ یہ مٹی کیا چیز ہے اور وہ سونا ویسے ہی نہیں نکلتا ہے، بلکہ پہلے اسکو تپانا پڑتا ہے اسکو صاف کرنا پڑتا ہے پہلے اسکو آگ کی بھٹی میں ڈالنا پڑتا ہے تب جا کروہ سونا اندر سے نکلتا ہے، اور کام کا بننا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات، اللہ کی طرف سے تجلیات، اللہ کی طرف سے خصوصی نظر کرم بعض بندوں کے دلوں پر پڑتی ہے اور وہ اپنے دلوں کو مانجھتے ہیں اسکا تزکیہ اور صفائی کرتے ہیں تو پھر وہ دل کام کا دل بن جاتا ہے۔

کامیاب نفس بڑا مہنگا اور قیمتی ہوتا ہے

فَالْهَمَّهَا فُجُورُ رَهَا وَتَقُوَا هَا نفس پر محنت کرنے کے بعد انسان کا دل متقد بنتا ہے اور متقی بننے کے بعد نفس اتنا مہنگا ہو جاتا ہے کہ پھر پورے عالم کے لئے زینت بنتا ہے، سونے کا اگر کسی نے ہاریا پازیب پہن لی ہو، تو وہ شخص پورے انسانوں کے لئے زیب و زینت کا ذریعہ بنتا ہے، بس ایسے ہی جس نے اپنے نفس کو مزکی کر لیا تو پھر وہ پوری دنیا کے لئے زیب و زینت کا باعث بنتا ہے، پوری دنیا کے لئے برکت بنتا ہے، اور پوری دنیا میں اسکی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔

مقصد رمضان تقوی ہے

اور اسی نفس کی صفائی کے لئے اللہ رب العزت نے اس مہینہ کو نازل کیا ہے کہ اس مہینہ کے اندر نفس کو بھوکا پیا سارکھ کر، اور اپنی خواہشات کو دبا کر انسان اپنے نفس کا صفائیا کرے، اور اس مہینہ میں اتنی مشق کروائی جاتی ہے کہ آپ کی اپنی حلال خواہشات آپکی اپنی حلال روزی آپکی اپنی حلال یہوی حلال ضروریات ان سب سے اس کو روکا جاتا ہے، اور جو میں نے شروع میں ذکر کیا کہ انسان کا جذبہ ہر وقت یہ ہونا

چاہئے کہ میں اپنی عقل کا غلام نہیں ہوں، بلکہ اپنے رب کا غلام ہوں، اس جذبے کے ساتھ جو اپنے نفس کو پالتا ہے، پوستا ہے، پورش کرتا ہے تو پھر یہ نفس کام کا بن جاتا ہے، ورنہ یہ نفس انسان کو زبردست ہلاکت اور خسارہ میں ڈالتا ہے باقی باقی انشاء اللہ بعد میں کریں گے، اللہ بتارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی حقیقت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان کی معنویت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین۔

اپنی نیت کو درست کریں

میرے بھائیو!! پھر اخیر میں یہی کہتا ہوں کہ کہ ہم سبی روایات کی طرح (normale routin) کی طرح عبادت کرنے والے نہ نہیں، بلکہ ذرا سوچیں کہ انسان سفر کرتا ہے وہ فوری سوچتا ہے کہ میں یہ سفر کیوں کر رہا ہوں؟ وہ اپنا مقصد تلاش کرتا ہے اسی طرح روزانہ سحری کے وقت سے آدمی یہ سوچ کہ کیا صرف رمضان کا مہینہ اسی لئے ہے کہ اعلان ہو رہا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب میں پانی کا گلاس رکھ دیتا ہوں شام کو سات بجیں گے، اور سات بج کر ایک منٹ پر پھر میں یہ پانی پیوں گا نہیں میرے بھائیو۔ بلکہ ہر آدمی اپنے آپ کے ساتھ یہ سوچ اور غور کرے کہ مجھ سے اس روزے کے ذریعہ کیا چاہا جا رہا ہے۔ مجھ سے روزہ کیوں رکھوایا جا رہا ہے روزانہ اگر اپنی نیت کی تجدید ہوگی انسان اپنے آپ کا محاسبہ کریگا تو انشاء اللہ ہماری یہ عبادتیں کام کی بنیں گی اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اپنی حقیقت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امین

وَصَلِّ اللَّهُ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَلْهَ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

وَآخِرَ دُعَائِنَا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بسم الله الرحمن الرحيم

اقتباس

بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایمانداری کا زمانہ نہیں ہے، لاحقہ
 وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ایک مومن اور وہ ایسا کہے، مومن ایسا نہیں کہہ
 سکتا، میرے دوستو۔ زمانے سے ہمیں کیا لینا دینا، ہمارے علماء نے
 ایک پتہ کی بات لکھی ہے کہ کمال اسمیں نہیں ہے کہ آپ زمانہ کے
 ساتھ چلیں، کمال تو اسمیں ہے کہ ہم زمانہ کو اپنے ساتھ چلائیں، یہ
 بہت مختصر بات ہے لیکن اگر اسکو کھولا جائے تو یہ: دریا بکوزہ: کے
 برابر ہے، کمال اسمیں نہیں ہے کہ لوگ جدھر چل رہے ہو، ہوا کارخ
 جدھر ہو، اُدھر ہی چلیں، مومن تو ہوا کارخ بھی پلٹ دیتا ہے مومن
 کے اندر ایک انقلابی حیثیت ہوتی ہے، اسکو زمانہ سے کیا لینا دینا
 علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ
 نگاہ مردمومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دنیا کی بے شاتی اور اس میں زندگی

گزارنے کے طریقے

الحمد لله رب العالمين؛ والصلوة والسلام على رسوله
الكريم؛ وعلى الله واصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه أما بعد

محترم بھائیو بزرگوار دوستو۔

دنیا کی بے شاتی، دنیا کی بے قراری، اور دنیا کا زوال، دنیا کے فنا ہونے کو ہمیشہ نبی کریم ﷺ اپنے صحابہ کے سامنے ذکر فرماتے رہے، بلکہ ان جذبات کو حضور اکرم ﷺ نے صحابہ کے دلوں میں پلایا ہے، ہر موڑ پر آپ ﷺ نے اس بات کی کامیاب ترین اور مکمل کوشش فرمائی کہ قیامت تک آنے والی انسانیت دنیا کو یہی اور فنا ہونے والی چیز اور وقتی گزرگاہ سمجھے جیسا کہ کسی نے کہا ہے کہ

جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے
یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے

دنیا میں اجنبی بن کر رہو

دنیا کی فنا بیت کی بڑی اچھی تعبیر جناب نبی اکرم ﷺ نے بیان فرمائی جسکو امام ترمذی نے نقل فرمایا ہے کہ: **كُنْ فِي الدُّنْيَا كَانَكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَيِّلٍ** جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں مومن کو اس طرح رہنا چاہیے گویا کہ وہ ایک اجنبی اور ایک مسافر ہے، میں یہاں مسافر ہوں، ایک مہینہ کے لئے آیا ہوا ہوں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی مقدر کی ہوتی، اور یہاں میں اپنے گھر کا پورا ساز و سامان پورا فرنیچر یا اپنی ضرورت سے زائد چیزوں کو لیکر نہیں آیا، یقوقنی سمجھی جاتی ہے اس شخص کی جو سفر میں اپنی ضرورت سے زیادہ سامان لیکر جائے بلکہ سفر میں تو ضرورت سے بھی انسان کم لیتا ہے جتنا ہو سکے اتنا کم کرتا ہے، بس اسی طرح دنیا کے اندر بھی انسان کو محض سامان لیکر چلنا چاہیے بہت زیادہ دنیا بانے کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔

مسافر ڈر کراور پچ کر رہتا ہے

حضور ﷺ نے فرمایا کہ تم دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم مسافر اور اجنبی آدمی ہو، اور محمد شین نے ایک بڑی قیمتی بات یہاں لکھی ہے کہ اجنبی شخص ڈر کر رہتا ہے اجنبی شخص ہمیشہ اپنے مال و ممتاع اور سامان کے بارے میں احتیاط کے ساتھ متوجہ رہتا ہے کہ میں اجنبی ہوں، یہاں میرا کوئی نہیں، اور میں یہاں کسی کا نہیں، میرا سامان کب لٹ جائے، میرے سامان کو کب کوئی لے لے، اس لئے وہ مکمل طور پر پچ کر رہتا ہے پس مومن بھی دنیا میں اپنی ممتاع ایمان کے بارے میں اپنی ایمان کی پونچی کے بارے میں

اللہ کی طرف سے اسکے قلب پر اتارے جانے والی عنایات اور اللہ کی طرف سے جتنے بھی اسکے دل پر الاطاف اور اکرام ہوتے ہیں، اسکے بارے میں وہ ہمیشہ (carefull) متوجہ رہتا ہے کہ کہیں دنیا کے دشمن مجھ سے اس متاع کو نہ لوٹ لیں اور کب شیطان ایمان پر حملہ کرے کچھ کہا نہیں جا سکتا اس لئے اس کو بھی ہمیشہ متوجہ رہنا چاہیے۔

راستہ گزرنے والے کی طرح رہو

حضور اکرم ﷺ کو تو کبھی کسی بات میں شک نہیں ہوتا تھا لیکن سمجھانے کے لئے آپ ﷺ الگ الگ طریقے اختیار فرماتے تھے، اس لئے دوسرا طریقہ یہ فرمایا کہ اگر کسی کو اجنبی ہونے کی حیثیت سمجھ میں نہ آتی ہو تو دوسری حیثیت میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ ایک راستہ گزرنے والا ہوتا ہے، ٹرانزیٹ پینجر کی طرح رہو، مثلاً آپ ایک ہی فلاٹ سے کسی جگہ روانہ ہو رہے ہیں، اور آپ کو درمیان کی کسی کنٹری میں فلاٹ چینج کرنا ہے، تو آپ کا سامان خود بخود پاس ہو جاتا ہے، آپ کو سامان فلاٹ میں منتقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام کمپنی خود کر لیتی ہے، آپ خفیف المتاع ہو کر بالکل ہلکے ہلکے ہو کر ایرپوٹ کو چینج کرتے ہیں، یا ٹرمنل کو چینج کرتے ہیں، حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ دنیا میں مومن کو بھی راستہ گزرنے والے کی طرح ہی رہنا چاہیے، اس لئے کہ جو راستہ سے گزرتا ہے اس کے پاس زیادہ سامان نہیں ہوتا ہے، اسی طرح ایک مومن کو بھی دنیا میں آنے کے بعد ہلکے ہلکے زندگی گزارنا چاہیے، بہر حال ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مکمل اس بات کی پوری کوشش فرمائی کہ دنیا کی بے شماری کو لوگوں کے ذہنوں میں بھایا جائے اور ہر موڑ پر آپ ﷺ نے اس کی کوشش فرمائی ہے۔

دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے

چنانچہ اسی کے پیش نظر ایک روایت حضرت ابو ہریرہؓ کی سیدنا امام مسلم نقل فرماتے ہیں، کہ **الدُّنْيَا سُجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ الْكَافِرِ**، کہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے، سارا معاملہ حل فرمادیا حالات کی شکایت کرنا مصیبتوں کی شکایت کرنا، مسائل (Problems) کا رونا دھونا اور دنیا میں انسان پر جو بھی مصیبتوں آتی ہیں ہمیشہ انسان اسکی شکایت کرتا رہتا ہے، حضور اکرم ﷺ نے ایک ہی جملہ میں اسکا جواب دیدیا کہ اگر ہم دنیا میں اس حیثیت کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، جو حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمائی کہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے، تو اس طرح کی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔

قید خانہ مرضی کے خلاف ہوتا ہے

اور دیکھو! قید خانہ میں اپنی مرضی کے خلاف زندگی گزارنی پڑتی ہے، قید خانہ میں پر دیسی کی سی زندگی گزارنی پڑتی ہے، قید خانہ میں وہی کھانا کھانا پڑتا ہے جس کی جیل اور افسر کی طرف سے اجازت دی جائے، بلکہ آپ حضرات بھی اس بات سے واقف ہونگے کہ اگر کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار ملنا چاہتا ہے تو اسکو بھی جیل اور افسر سے اجازت لینی پڑتی ہے، کوئی کھانا دینے کے لئے آئے یا افطار کے لئے کھجور بھی دیا جاتا ہے تو وہ بھی چیک کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ کھجور کیساد یا جار ہا ہے کیسا ہدیہ یہ دیا جا رہا ہے اسکو دیئے جانے کے قابل بھی ہے یا نہیں؟ بہت احتیاط کے ساتھ ایک ایک قدم قیدی کو

پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے، وہ ایک منٹ بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزار سکتا اسکا کھانا پینا اسکا رہنا سہنا سب اسکے افسرا اور جیلر کی اجازت پر ہوتا ہے۔ بس یہی پوری مثال مومن کی ہے کہ مومن اس دنیا میں جیل خانہ میں ہے اب یہاں اپنی مرضیات کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا اسکو کھانے سے پہلے شارع علیہ السلام کی اجازت لینی پڑے گی، اسلام کی اجازت لینی پڑے گی کہ میں یہ چیز کھا سکتا ہوں یا نہیں کھا سکتا؟ میں ایسے رہ سکتا ہوں یا نہیں رہ سکتا، جیل کی زندگی بڑی مصیبت کی زندگی ہوتی ہے، جیل کی زندگی بڑی کٹھنائیوں کی زندگی ہوتی ہے، اسیں سونے کے لئے بھی بہت محدود چلے گے دی جاتی ہے، بس ایسے ہی مومن بھی دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزار سکتا اسلئے کہ یہاں تو جیل خانہ کی زندگی ہے۔

دنیا جیل خانہ کسی گناہ کے عوض نہیں ہے

علامہ ابن حجر عسقلانی نے بہت قیمتی بات لکھی ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ جیل میں رہنے والا ہر شخص قصوروار ہی ہو، انہوں نے یہاں ایک سوال کا جواب دیا ہے کہ دنیا مومن کیلئے قید خانہ ہے، لیکن اسکا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ مومن کو کسی گناہ کے بدله میں دنیا جیل خانہ کے طور پر دی گئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیل میں بہت سی مرتبے بے قصوروں کو بھی ڈالا جاتا ہے، جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ڈالا گیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی بھی قصور نہیں تھا، لیکن حضرت یوسف کے مقام کو اجاگر کرنے کے لئے جیل میں ڈالا گیا، کسی نے کہا ہے جسکا مفہوم یہ ہے کہ حضرت یوسف کو جب تک کسی نے خریدا نہیں تھا حضرت یوسف کو جب تک کسی نے جانا پہچانا

نہیں تھا تب تک تو وہ بے حیثیت تھے، انکے بھائیوں نے انکی قیمت کو سمجھا تھا، جب انکو نویں میں ڈالا گیا تو انکی کوئی حیثیت کسی کے سامنے نہیں تھی لیکن خرید کر انکی قیمت دنیا کے سامنے اور زیادہ اجاگر کر دی گئی اگرچہ کہ، وَشَرَوْهُ بِشَمَنٍ بَخُسٍ دَرَاهِمٍ مَعْدُودَةٌ،

لیکن خریدنے کے بعد حضرت یوسفؐ کی قیمت بڑھ گئی اور بہت اچھی بات حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانیؒ نے لکھی ہے کہ عزیز مصر نے حضرت یوسفؐ کو خرید لیا تھا لیکن انہوں نے حضرت یوسفؐ کو اپنی نگاہوں سے بھانپ لیا تھا کہ یہ کوئی غیر معمولی شخص ہے اسلئے کہ عزیز مصر سیاسی شخص تھے، متذبر تھے، سیاست (Politics) کی دنیا میں جو اپنی زندگی گزارتا ہے جو روزانہ کے نشیب و فراز کو دیکھتا ہے، وہ کسی کی نگاہ کو دیکھ کر بھانپ لیتا ہے کہ یہ آدمی کن صلاحیتوں کا مالک ہے۔ حضرت مولانا منظور نعمانیؒ نے بڑا ذردار استدلال کیا ہے کہ حضرت یوسفؐ کو اس نے ایک غلام کے طور پر خریدا، لیکن کسی غلام کے بارے میں گھر کی بیوی کو نہیں کہا جاتا کہ، اگر می مٹواہ۔ اسکو عزت کے ساتھ رکھنا یہ بُلْقَيْتِی خص ہے یہ ہمارے لئے زندگی میں کام آئیکا عَسْنی آن ینَفَعَنَا أَوْتَخَذَهُ وَلَدَّا:

اللہ تعالیٰ نے ان سے کہلوادیا تھا کہ دیکھو یہ ہمارے کام کا بنے گا یہ ہمارے ملک کے لئے فائنس منستر بنے گا، مجھے جو اصل بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسفؐ پر بعد میں جو حالات آئے اور آپ کو جیل میں ڈالا گیا تو وہ جیل میں ڈالا جانا حضرت یوسفؐ کے کسی گناہ کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ رفع درجات کے لئے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے

حضرت یوسفؑ کے درجات کو کس طرح بلند فرمایا حضرت یوسفؑ غلام تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنایا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَاهُ لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ جیل کی زندگی کے بعد ہم نے حضرت یوسفؑ کو بادشاہ بنایا۔

حالات برائے رفع درجات

علامہ ابن القیم الجوزی نے حضرت آدمؑ کے واقعہ کو ذکر کرتے ہوئے یہی بات نقل کی ہے کہ آدمؑ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نے تمہارے ذریعہ گندم کھانے والی غلطی کیوں کروائی تھی میں نے تمہیں جنت سے کیوں نکالا؟ آدمؑ اگر باطنی نظر سے دیکھتا ہے تو اسکی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ حضرت آدمؑ کو جنت سے نکالا گیا اور خلافت کا بہت بڑا درجہ دیا گیا، اور انہوں نے لکھا ہے کہ اگر حضرت آدمؑ جنت سے نہ نکالے جاتے، تو یہ ذریت کا سلسلہ کیسے چلتا، اور انکی نسل میں جو بڑے بڑے انبیاء کرام پیدا ہوئے یہ کیسے ہوتے؟ دنیا مومون کے لئے جو جیل خانہ ہے، اسکا یہ مطلب نہیں کہ مومون کو اسکے گناہ کی وجہ سے جیل خانہ میں رکھا جا رہا ہے، نہیں بلکہ اسکے درجات کو بلند کرنے کے لئے جیل میں رکھا جا رہا ہے اور اسکو آخرت کی نعمتوں سے بہرہ ور ہونے کے لئے رکھا جا رہا ہے، بھوکے آدمؑ ہی کو کھانے کا مزہ زیادہ ملتا ہے، ایک آدمؑ کا پیٹ سیر ہو، پھر اسکے سامنے آپ کتنی ہی قیمتی چیزیں رکھیں، لیکن اسکو کھانے میں مزہ نہیں آتا اسکو لذت بھی نہیں ملتی، بلکہ اسکو تو مستقی چڑھتی ہے وہ اسکیں کچھ نہ کچھ خواہی نکالتا ہے، وہ اسکیں کچھ نہ کچھ عیوب نکالتا ہے لیکن ایک بھوکا آدمؑ ہوتا ہے، اسکو کھانے کا لطف ملتا ہے، اسکو کچھ نہ کچھ نہ کچھ عیوب نکالتا ہے لیکن ایک بھوکا آدمؑ ہوتا ہے، اسکو کھانے کی لذت ملتی ہے۔

دنیا کی نعمتیں سب کے لئے ہیں

اسی لئے مفسرین نے ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا؛ قُلْ هَيَّا لِلَّذِينَ
آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ تو اس کے اندر خالصہ کا
تعلق یوْمَ الْقِيَامَةِ سے جوڑا ہے، الَّذِينَ آمَنُوا، کے لئے، مطلب یہ ہے کہ
مؤمنین کے لئے دنیا کے منافع، دنیا کی لذتیں اور نعمتیں مشترک طور پر ہیں، کیا مطلب؟
مطلوب یہ ہے کہ دنیا کی لذتوں اور نعمتوں سے دنیا کے ساز و سامان سے مومن اکیلا
لطف اندوز نہیں ہوتا، کافروں کے لئے بھی اسی میں مزے رکھے گئے ہیں لیکن آخرت
کے اندر ہی خالصہ یوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن ان چیزوں کی لذت اور فائدہ
صرف اور صرف مؤمنین کے لئے ہی ہونگا۔

رحمٰن اور رحیم کے درمیان فرق

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا رَحْمَنُ اور رحیم کے درمیان ہمارے علماء نے یہ
فرق ذکر کیا ہے، کہ رحمن کا مطلب ہوتا ہے اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رحم
کرتا ہے اور اس کا استعمال کافروں کو نعمت دینے کے لئے بھی اور مؤمنین کے لئے بھی
ہوتا ہے لیکن آخرت میں اللہ کی صفت رحمت صرف اور صرف مؤمنین کے لئے ہی ہوگی
وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اس کے لئے رحیم کا الفاظ استعمال کیا جاتا ہے، تو دنیا
مؤمن کے لئے جیل خانہ ہے، اور جیسے جیل میں رہنے والے آدمی کو تکلیفوں کا مقابلہ کرنا
پڑتا ہے مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے، ایسے ہی مومن پر دنیا میں حالات آتے ہیں اسکی

مرغی کے خلاف، اسکی طبیعت کے خلاف اسکے اوپر حالات آتے ہیں، پتہ یہ چلا میرے بھائیو کہ مومن دنیا میں اپنی من مانی نہیں چلا سکتا۔

دنیا کافر کے لئے جنت ہے

اور فرمایا کہ: **جَنَّةُ الْكَافِرِ**: کافر کے لئے تو دنیا چن اور پارک ہے، پارک (Park) میں آدمی آزاد زندگی گزارتا ہے پارک میں کوئی کسی کو کچھ کہنے والا نہیں، کوئی کسی کو دیکھنے والا نہیں، کوئی دیکھی بھی تو اسکی کوئی پکڑنہیں کی جاتی کہ بھائی یہ تو پارک ہے یہ تفریح گاہ ہے، تفریح گاہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آدمی اطمینان اور آرام کے ساتھ آزادی کی زندگی گزارے اور جیل میں بات تک کی اجازت نہیں ہوتی، حضور اکرم ﷺ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، وہ قرآن پاک ہی کی آیات کی تفسیر ہے، اسلئے ہم گز شتہ کل تراویح میں ایک آیت کریمہ پڑھ چکے اور سن چکے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ: **فُلُّ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالظَّيْبُ وَلُؤْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ**؛ حضور ﷺ کے واسطے سے مومن کو ایک پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کہہ یجھے کہ ناپاک اور پاک، حلال اور حرام دونوں برابر نہیں ہو سکتے آگے کتنی اچھی ہماری تربیت فرمائی کہ، **وَلُؤْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ**؛ کہ حرام مال کی زیادتی اگرچہ ہمیں اچھی لگتی ہو، کافروں کے پاس مال کی بہتات، مال کی فراوانی اور مال کی زیادتی اگرچہ ہمیں لبھادیتی ہو، تب بھی وہ اہل ایمان کے لئے درست نہیں ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہؒ نے: **أَعْجَبَكَ**: کا ترجمہ کیا ہے کہ اگرچہ یہ چیز آپ کو لبھادیتی ہو، اور ہماری نگاہوں کو لاپھی بنادیتی ہو، کہ او ہو جھوٹ بولکر اور سائن کر کے اور ادھر کی ٹوپی اُدھر پہنا کر بلیک کو دانت کر کے اور دانت کو بلیک کر کے مال زیادہ پیدا ہوتا ہے۔

اور خیانت کے ساتھ تجارت کر کے اور جھوٹ بول بول کر اپنی تجارت (busnis) چلاتا ہے، اور اپنے کاروبار کو فروغ دیتا ہے اسی لئے اس کا کاروبار ہم سے آگے بڑھتا ہے تو سن لو کہ یہ کاروبار اور اس طرح کی سائنس کرنا اور اس طرح کے دھوکے دینا کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے، اور وہ مال کس کام کا جس میں اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی ہو۔ ایسے مال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر مقدر نہیں ہوتی اس لئے ہم ایسے مال کے کمانے سے پر ہیز کریں، ہمارے لئے اللہ اور اس کے رسول کی ذات بڑی ہے، پیسہ بڑا نہیں ہے، ہم اللہ کے ہو جائیں دنیا کی تمام چیزیں ہمارے تابع ہو جائیں گی۔

ہم زمانہ کو اپنے ساتھ چلا کیں

بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایمانداری کا زمانہ نہیں، لا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا
بِإِلَهٍ، ایک مومن اور وہ ایسا کہے۔ مومن ایسا نہیں کہہ سکتا، میرے دوستو! ازمانے سے
ہمیں کیا لینا دینا، ہمارے علماء نے ایک پتہ کی بات لکھی ہے کہ کمال اسمیں نہیں ہے کہ
آپ زمانہ کے ساتھ چلیں، کمال تو اسمیں ہے کہ ہم زمانہ کو اپنے ساتھ چلا کیں، یہ بہت
محض بات ہے، لیکن اگر اسکو کھولا جائے تو یہ: دریا بکوزہ: کے برابر ہے، کمال اسمیں
نہیں ہے کہ لوگ جدھر چل رہے ہو، یا ہوا کارخ جدھر ہو، ادھر ہی ہم چلیں، ارے
مومن تو ہوا کارخ بھی پلٹ دیتا ہے، مومن کے اندر ایک انقلابی حیثیت ہوتی ہے اسکو
زمانے سے کیا لینا دینا علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ
نگاہ مردمون سے بدل جاتی ہیں تقدیریں!

زمانہ کو گالی مت دو

مرد مومن کی نگاہ وہ ہوتی ہے کہ وہ تقدیر کو بھی اپنے تابع (fever) کر لیتی ہے، مومن تو زمانہ کو اپنے دھارے کے مطابق چلاتا ہے نہ یہ کہ وہ زمانہ کے دھارے کے مطابق چلتا ہے، اسی لئے توحیدیث قدسی میں فرمایا کہ، **لَا تَسْبُوا الدَّهْرَ فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ أَقْلُبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ**، کہ زمانہ کے بارے میں تم فیصلہ مت کرو، زمانہ کو برا بھلامت کہو، زمانہ بگڑیا زمانہ ایسا ہو گیا، ہم جو روناروٹے ہیں، اللہ تعالیٰ و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ زمانہ تو میرے اختیار میں ہے، زمانہ کو تو میں پھرتا ہوں، اور یہ ساری تقدیریں میری دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں، میں جیسے چاہوں اسکو پھر اسلکتا ہوں، شب و روز کا بدلانا اور یہ رفتار ایام، اور گردش زمانہ، اور یہ جتنا بھی نظام چلتا ہے، اسکو تمہارے تابع کب کرنا چاہیے، اور اسکو تمہارے خلاف کب کرنا چاہیے۔ یہ تو میرے قبضہ میں ہے، زمانہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلتا ہے، یہ رات اور دن میں جو بھی حالات اور مصیبتیں آتی ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں آتی، اور کسی کے چاہنے سے بھی نہیں آتی، چاہے کوئی اپنے آپ کو کتنی بڑی طاقت سمجھتا ہو، تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہو گا، لیکن ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلتی ہے، بہر حال مومن کو زمانہ اپنے تابع میں کرنا چاہیے، نہ یہ کہ وہ خود زمانہ کے تابع ہو کر چلے، طبیعت کو شریعت کے تابع بنا کر چلیں، نہ یہ کہ شریعت کو انسان اپنے تابع بنا کر زندگی گزارے۔

کتاب و سنت کی رہبری

اللہ تعالیٰ نے ارشاد کہ، وَلَوْ أَعْجَبَ كُثُرَةُ الْخَيْثِ، کہ دنیا میں مال حرام کی کثرت تم کو لبھائے گی، کہا او ہو، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ غلط باتیں کرتا ہے، وہ ادھر کی ادھر کرتا ہے، وہ تو نفع میں بڑھ گیا، جیسا کہ ایک چرچے چلتا ہے کہ فلاں آدمی پانچ سال سے لندن آیا ہے، لیکن کتنا پیسہ اس نے کمالیا، اور ہم پچاس سال سے ہیں، ہم نے تو اتنا پیسہ نہیں کمالیا، اور ایک جگہ قرآن پاک ایک معیار بتاتا ہے، کتاب اور سنت نے ہماری پوری تربیت کی ہے، سورہ توبہ میں دو جگہ اسی قسم کا مضمون ارشاد فرمایا گیا ہے، کہ، فَلَا تُغْبِّ جُبَكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أُولَادُهُمْ، کہ کافروں اور نافرمانوں اور خدا کے احکام توڑنے والوں کا مال اگر زیادہ ہو جائے تو تمہیں انکی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس لئے کہ یہ سب ظاہر میں ان کی بڑھوتری نظر آ رہی ہے، لیکن اگر اس کو چشم بصیرت سے دیکھا جائے تو خسارہ اور نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔

زیادتی مال مرضی مولی کا معیار نہیں ہے

بہر حال، لوگوں کے مال و دولت کی طرف ہمیں للچائی ہوئی نگاہ ہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے کیوں؟ اسلئے کہ مال و دولت کی کثرت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے نتیجہ میں نہیں ہوتی بلکہ کبھی کبھی تو مال و دولت کی کثرت ہلاکت میں مبتلا کرنے کے لئے بھی ہوتی ہے ارشاد ہے، الْهُكْمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، مال و دولت کی کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، اہو ولعب کی زندگی میں ڈال دیا ہے، یہاں

تک کہ آدمی قبرستان جاتا ہے، وہاں بھی دنیا کی ہی باتیں کرتا ہے، جنازہ پڑا ہے قبر
کھودی جا رہی ہے، اور وہاں بھی دوکان کا حال چلتا ہے کہ کتنا پیسہ کمائے ہو، یہی ہے،
حتّیٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ قرآن نے پہلے ہی کہدیا ہے۔

قبرستان جا کر صحابہ کرامؐ کی حالت

قبرستان میں جا کر تجھیز و تکفین کے انتظار میں حضرت عثمان غنیؓ بیٹھتے تھے تو وہ
اتnarوتے تھے کہ آپ کی ڈاڑھی مبارک تر ہو جاتی، صاحب مشکوٰۃ نے ایک روایت نقل
فرمائی ہے کہ کسی صاحب کی مدفین کے لئے صحابہ کرام تشریف لے گئے، حضرت ابو بکرؓ
ایسے گم سم ہو گئے تھے کہ حضرت عمر نے سلام کیا تو سلام کا جواب بھی نہیں دیا اب ادھر
حضرت عمرؓ نے شکایت کر دی کہ حضرت ابو بکرؓ کو میں نے سلام کیا تو آپؓ نے سلام کا
جواب بھی نہیں دیا حضرت ابو بکرؓ سے جب تحقیق کی گئی تو آپؓ نے فرمایا کہ مجھے معلوم
ہی نہیں ہے کہ مجھے کسی نے سلام کیا قبرستان جا کر انکی حالت تو یہ ہوتی تھی اور حضور
علیہ السلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے تم کو قبرستان جانے سے منع کیا
تھا، إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، میں نے تمہیں اس سے پہلے قبروں کی
زیارت سے اسلئے منع کیا تھا ﴿شریعت میں پہلے منع تھا﴾ کہ لوگ اپنے صبر کو ضبط
میں نہ لاسکیں گے اور کہیں وہ وہاں برداشت نہ کر کے واویلا مچائیں اس لئے پہلے آپؓ
علیہ السلام نے منع فرمادیا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے قریب وہ زمانہ تھا کہ لوگ اپنے گریبانوں کو
چاک کرتے تھے، واویلا مچاتے تھے، نوح خوانی کرتے تھے، اور لوگ کہیں صبر کے
دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں اسلئے حضور نے علیہ السلام نے شروع میں منع فرمادیا تھا کہ

قبرستان میں مت جایا کرو، اسلئے کہ قبرستان جانا تمہیں قبر یاد دل دیگا تمہیں موت یاد دلا دیگا اور پھر تم زمانہ چاہلیت ہی کی چال چلو گے اور جب وہ وقت نکل گیا تو آپ ﷺ نے قبروں کی زیارت مردوں کے لئے جائز فرمادی۔ اور عورتوں کے لئے قبرستان جانا منع ہی رہا۔

پہلے ہی سے قبر کھدا نے کا واقعہ

میں ایک دفع نزوی گیا، سورت ضلع میں ترکیسر کے قریب ایک گاؤں ہے میں نے وہاں دیکھا، تو مجھے بہت تعجب ہوا کہ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرنے والے ہوتے ہیں ایک صاحب مجھے قبرستان لے گئے، اور کہا کہ مولوی صاحب میں نے میری قبر کھدا کرتا رکھی ہے، اور روزانہ میں یہاں آ کر آدمی گھنٹے کے لئے لیتا ہوں، اور اپنی قبر کو یاد کرتا ہوں کہ مجھے یہاں آ کر سونا ہے، وہ صاحب ابھی حیات ہیں لیکن انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ میں آپ کے سامنے بزرگی بتانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں، اور اسلئے بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بڑا مانیں، اور میری زہد و فناعت کے قابل ہو جائیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بھی اس سے سبق ملے اور دنیا والوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہیے، تو انہوں نے اپنی قبر کھدا کرتا رکھی ہے، روزانہ وہاں جا کر آدمیا گھنٹے لیتتے ہیں۔ وہ عام فتم کا آدمی ہے، اللہ کا خوف جب کسی کے دل میں گھر کر جاتا ہے تو پھر یہی حالت ہوتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ رات کو بھی میں اپنے گھر کی لائٹ بجھا کر اپنے بستر پر یہی تصور کرتا ہوں، یہی تو امام بخاری کی تعلیقات میں روایت ملتی ہے کہ، حَاسِبُوا قَبْلَ أَنْ تُحَاسِبُوا، اور گجرات میں

بہت چھوٹے چھوٹے بیزر چھپے ہوئے ہیں، آپ نے بھی کبھی پڑھے ہوئے، اور وہ یہ ہے کہ نماز پڑھواں سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے، اس جملہ کا مطلب ہے کہ نماز پڑھنے قبل اسکے کہ آپ کی نماز جنازہ پڑھی جائے، یعنی آدمی اپنی زندگی کو بنالے، اس سے پہلے کہ ہم جنازہ کی شکل میں لیئے ہوئے ہوں، اور لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھیں ہم لوگوں کو اپنے کندھوں پر اٹھائیں اس سے پہلے کہ لوگ ہم کو اپنے کندھے پر اٹھائیں، بہر حال موت کو یاد کرنا چاہیے۔

دنیا باعث ٹینشن ہے

میرے بھائیو! اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مال و دولت کی زیادتی ہلاکت کا باعث ہے، ارشاد ہے، **إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَ
بَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا**، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مال و دولت کی زیادتی کے ذریعہ ان کو عذاب میں بٹلا کر دیا جائے۔ کیا مطلب؟ مال و دولت انسان کے لئے ٹینشن ہوتا ہے، حضرت تھانویؒ نے یہاں ایک سوال اٹھایا ہے کہ مومن کو مال دے کر اللہ تعالیٰ کیسے عذاب میں بٹلا کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے بہت اچھی بات لکھی ہے غور کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے۔ مال اور دولت، اولاد اور تجارت اور انسان کے پاس دنیا میں جو بھی نعمتیں ہوتی ہیں اسکے ذریعہ انسان تکلیف میں بٹلا ہوتا ہے یہ تو کافروں کے لئے بھی ٹینشن ہوتا ہے اور مونوں کے لئے بھی ٹینشن ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کافروں کو مال و دولت دیکر ٹینشن میں رکھنا چاہتا ہوں **لِيُعَذِّبَ
بَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا**، اور دو جگہ سورہ توبہ میں یہ بات آتی ہے، تو مال کافروں کے لئے بھی ٹینشن ہے، اور مونوں کے لئے بھی ٹینشن ہے، مومن کو اپنے

مال اور اولاد اور دولت کی وجہ سے فکر ہوتی ہے تو گویا کہ اس کے لئے مال اور دولت باعث ٹینشن ہوا، حضرت تھانویؒ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیئے ہوئے الہامی علوم کے نتیجہ میں فرمایا ہے کہ مومن کو مال اور دولت کی وجہ سے جو فکر اور جو ٹینشن ہوتا ہے تو یہ فکر اسکے لئے آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یعنی مومن کے لئے یہ ٹینشن باعث ثواب ہے۔ اور کافروں کو بھی مال اور دولت کی فکر سوار رہتی ہے، لیکن ان کے لئے کوئی ثواب نہیں۔ ذرا یہاں سوچنے کی ضرورت ہے کہ مومن کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، مومن کو اپنی اولاد کی وجہ سے رونا پڑتا ہے، اولاد کی وجہ سے روتا وہی ہے جسکو آخرت کی فکر ہوتی ہے۔

حضرت نے یہ بات آگے لکھی ہے کہ اولاد کی وجہ سے روتا وہی ہے جسکو آخرت کی فکر ہو، جسکو آخرت کی فکر نہ ہو تو اسکو کیا ضرورت، وہ کہتا ہے کہ اولاد اپنی جگہ پر زندگی گزارتی ہے، مجھے ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ مغربی کلچر میں آپ نہیں دیکھتے کہ اٹھارہ سال کے بعد اولاد کو باپ سے کیا لینا دینا، یہاں اولاد کی کسی کو کوئی فکر نہیں، اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کی مختتوں اور انکی قربانیوں کے نتیجہ میں ہمارے دلوں میں اولاد کی محبت رکھی ہوئی ہے۔ الحمد للہ اتنی مدت سے آپ حضرات کے یہاں رہنے کے باوجود ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے آپکے دلوں میں اولاد کی فکر رکھی ہے، یہ ہمارے بزرگوں کے وہ پیغامات ہیں جو ہمارے دلوں میں پلاۓ گئے ہیں یہ سب اسی کا نتیجہ ہے، ورنہ یہاں کا کلچر آپ نے دیکھا کہ، بھائی اپنی بہن کو صاف بے حیائی کرتے دیکھ رہا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو زندگی کی ضرورت ہے (Life independency) لیکن کیا مومن اسکو برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں، میرے بھائیو۔ مومن تو اپنی اولاد کی فکر کرتا ہے، وہ تو کڑھتا ہے کہ مولوی صاحب میرا بیٹرات میں ایک ایک دو دو بے گھر میں آتا ہے

اسکو یہ فکر ہے اسی فکر کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ اسکے آخرت کے فضیلے فرماتے ہیں اور کافر کے لئے یہ بات نہیں ہے۔

دنیا ذریعہ ہے اس کو مقصد نہ سمجھیں

ایک بات یہ ہے کہ مال و دولت کی کثرت کو اپنے حق میں سعادت مندی نہ سمجھیں، بلکہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آزمانے کے لئے بھی دیتے ہیں، بہر حال اور بھی بہت سی باتیں ہیں، اس حدیث کے مطابق جوان شاء اللہ کل پڑھیں گے، بہر حال مومن کو دنیا میں تکلیفوں کا سامنا خوشی کے ساتھ کرنا چاہیے، اسلئے کہ دنیا ہمارے لئے جیل خانہ ہی ہے اور کافر کو جو نعمتیں ملتی ہیں، اسکو دیکھ کر ہمیں کسی دھوکہ میں بنتلاء ہونے کی یا متعدد (kanfuse) ہونے کی ضرورت نہیں، وہ تو اس کے لئے جنت اور پارک کے طور پر ہی بنائی گئی، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ذریعہ کو مقصد اور مقصد کو ذریعہ بنانے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین۔ ہم ذریعہ کو مقصد سمجھنے والے ہو گئے ہیں، اور مقصد کو ذریعہ سمجھنا ہماری ناسمجھی ہے، اصل میں سمجھنے سمجھنے لگیں گے، حق تعالیٰ شانہ دنیا کے ساتھ ہماری رغبت کو کم فرمائے، آخرت کی طرف ہمارا شتیاق بڑھائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین:-

وَصَلِّ اللَّهُ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمُولَانَا مُحَمَّد وَعَلَى الْأَلْهَ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

وَآخِرَ دُعَوَانَا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بسم الله الرحمن الرحيم

اقتباس

الله تعالى لوگوں کے اوپر جانی اور مالی مصیبتوں لاتے ہیں اس کی وجہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ، فَأَخْذُنَّهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ، اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو مصیبت میں اس لئے بتلاء کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اپنے گناہوں سے تو بہ کریں معافی مانگیں اور اسی مضمون کی ایک آیت نویں پارے کے دوسرے روکوں میں بھی ارشاد فرمائی گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جملوں کو اول بدل کر چھین گھوڑا ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ فَأَخْذُنَّهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ، اور وہاں فرمایا کہ، فَلَوْلَا إِذْجَأَنَّهُمْ بَاسْنَاتَضَرَّعُوا، کہ جب ہماری طرف سے کوئی مصیبت کوئی آفت آئے چاہے زلزلہ کی شکل میں ہو، یا کسی وبا کی شکل میں ہو تو بندوں کو اپنی اصلاح کر کے گناہوں سے تو بہ کر لینی چاہئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورہ انعام کی فضیلت

الحمد لله الذي خلق السموات والارض وجعل الظلمت
 والنور، ثم الدين كفروا بربهم يعدلون، وقال تعالى في قل تعالوا اتل ما
 حرم ربكم عليكم ان لا تشركوا به شيئاً وبما الوالدين احساناً، وقال
 تعالى، قل إن صلوتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين،
 لا شريك له وبذالك امررت وانا اول المسلمين، صدق الله
 العظيم

معزز بھائیو، دوستو، اور بزرگو۔

آج تراویح میں سورہ انعام کے نام سے ایک مکمل سورۃ پڑھی اور سی گئی ہے جو
 قرآن مجید کی ایک اہم ترین سورۃ ہے، تمام سورتوں میں سورہ انعام کو ایک خصوصیت
 اور ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے، جو کہ سورہ یسین اور سورہ رحمٰن کو بھی نہیں، سورہ
 فاتحہ کو بھی نہیں، طبرانی شریف کی ایک روایت کے بموجب جس کو محدثین نے صحیح
 روایت گردانا ہے کہ جناب نبی اکرم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ انعام کو لوح
 حفظ سے آسمان دنیا پر اتارا جا رہا تھا، تو ستر ہزار فرشتے اسکو الوداع کرنے کے لئے

تشریف لائے تھے، اور یہ حیثیت کسی سورت کو حاصل نہیں۔

جتنا بڑا مہمان اتنی ہی بڑی خصتی

جتنا بڑا مہمان اتنے ہی زیادہ اسکور خصت کرنے والے ہوتے ہیں، اور جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے اسکور خصت کرنے کے لئے اتنے ہی دور تک جاتے ہیں، کوئی سادھا مہمان جو روزانہ آتا جاتا ہو، یا جس کو کوئی خاص حیثیت حاصل نہ ہو، آدمی اسکو دروازہ تک جا کر سلام کر دیتا ہے، اور یہ بھی بہت ہو گیا ورنہ تو آدمی بستر پر بیٹھے بیٹھے ہی السلام علیکم کر دیتا ہے، کہ ٹھیک ہے، بھائی جائیے، فی امَانِ اللَّهِ، اور اگر اس سے تھوڑا اونچے درجے کا (Up Grade) ہو تو دروازہ تک جاتا ہے، یہ دوسری چیز یعنی دروازہ تک جانا سنت ہے، ترمذی شریف میں جناب نبی اکرم ﷺ کے جو شائل ذکر کئے گئے ہیں، اس میں یوں آتا ہے کہ مہمان کا اکرام یہ ہے کہ اسکور خصت کرنے کے لئے دروازہ تک جایا جائے۔

ہم نے اپنے بڑوں کو اسی طرح دیکھا ہے کہ استاذ ہونے کے باوجود اپنے شاگردوں کو خصت کرنے کے لئے دروازہ تک جاتے ہیں، اور اسکو حدیث میں تشبیح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اگر اسکے اوپر کے درجہ کا مہمان ہو تو اگر وہ بس سے روانہ ہو رہا ہے، تو بس اسٹینڈ تک جاتے ہیں، یا ریلوے اسٹیشن پر روانہ کرنے کے لئے جاتے ہیں اور اگر تھوڑا اونچا مہمان ہو تو اسکو روانہ کرنے کے لئے آدمی ایر پوٹ تک جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جتنا بڑا مہمان جتنی جس کی خصوصیت اور اہمیت ہے، اسکے مطابق اسکے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، سورہ انعام اللہ کے نزدیک اتنی مقرب اور اتنی محبوب اور

اتنی اہمیت کی حامل سورۃ ہے کہ اسکو رخصت کرنے کے لئے ستر ہزار فرشتے روانہ ہوئے، اور مسند بزار کی روایت میں اسکو اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ آسمان دنیا تک تو ستر ہزار فرشتے آئے تھے لیکن ہر آسمان سے اور ستر ہزار فرشتے جڑتے جاتے تھے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اسکو روانہ کرنے کے لئے ستر ہزار فرشتے جڑتے چلے گئے۔

سورۃ انعام کی فضیلت کی وجہ

اب رہی بات کہ سورۃ انعام میں وہ کوئی خصوصیت ہے کہ اس کو روانہ کرنے کے لئے ستر ہزار فرشتے آئے، کیا اس میں دولت کمانے کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے؟ کیا اسمیں بزنس ڈیلوپ کرنے کا کوئی طریقہ ذکر کیا گیا ہے؟ اسمیں آخر کیا بات ہے؟ تو خود جناب اکرم ﷺ نے اس راز کو افشا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی سورتوں میں سورۃ انعام کمکمل اسلام کا فاؤنڈیشن پر مشتمل ہے، اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں مثلاً شرک سے گریز کرنا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کرنا اور اللہ کی قدرت کو ثابت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، ایسی ذات با برکات کی قدرت کا اسمیں تذکرہ ہے، اسی طریقہ سے مہماں اسلام کے بیسیک اصول ہیں، جسکے اوپر پورا اسلامی (law) قانون نکلتا ہے اور پورا جزو اسلامی جسکے اوپر متفرع ہوتا ہے، اسکو اس سورۃ میں ذکر کیا گیا ہے نیز کوئی چیزیں انسانوں کے لئے حلال ہیں، اور کوئی چیزیں انسانوں کے لئے حرام ہیں، ان تمام چیزوں کو اس سورۃ میں ذکر کیا گیا ہے، اس سورۃ کو ان تمام مذکورہ چیزوں کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔

علی الاعلان تو حید کرنے کا حکم ہے

حتیٰ کہ اس سورۃ میں ابوالانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا وہ مکالمہ، یا وہ مناظرہ ہے جسکو قرآن نے، وَحَاجَهَ قَوْمًهُ اور تِلکَ حُجَّتُنَا آتینا ہا ابراہیم علی قَوْمِہِ، کے ذریعہ اس ایک واقعہ کو نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو حید کی بنیاد پر اپنے والد تک کوئی بخدا، ان کے سامنے بھی حق بات کہی اسی لئے اسی سورۃ میں آگے نصیحت کی گئی ہے، وَإِذْ أَقْلَتُمْ فَأَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، کہ جب کوئی بات کہنے کی باری آئے یا کسی کے سامنے کوئی پیغام دینے کی باری آئے تو انصاف کے ساتھ وزن کر کے اس کو صحیح معیار پر اتار کر صحیح بات کیا کرو، چاہے سامنے والا اپنا بابا پاپ ہی کیوں نہ ہو تو تو حید میں ذرہ برابر کوئی لپک نہیں چھوڑی جا سکتی ہے، تو حید کے معاملہ میں ماں ایک طرف ہو، اور ماں یہ کہتی ہو کہ بیٹا ذرا امیرے حکم کو مان لے بابا کہتا ہو کہ بیٹے میرے حکم کو مان لے تو ان کی بات کو بھی نہیں مانا جائے گا، حضرت ابراہیم نے دو ٹوک یہ بات کہی تھی کہ، إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، حضرت ابراہیم کے والد محترم بت پرست تھے، بلکہ وہ خود بت بناتے تھے، اور لوگوں کو بیچتے تھے، حضرت ابراہیم نے صاف بات کہی کہ آپ اپنی جگہ میرے بابا ہیں آپ نے مجھ کو دنیا میں جنم دیا یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے لیکن آپ جو غیر اللہ کی پوجا پرستش کر رہے ہیں اس سے مجھے اختلاف ہے، میں اس کو نہیں مان سکتا آپ اس سے بازاً جائیے۔

اسلام کے بیسک کوڈ کر کیا گیا

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے صاف فرمایا کہ، یا آبست لم تَعْبُدْ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبَصِّرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، کہ اے میرے ابا جان آپ ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جونہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں؟ اگر دیکھتے اور سنتے تو بھی ان کی عبادت نہیں کی جاتی یہ جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کی حقارت کو پیان کرنے کے لئے ارشاد فرمایا، اور اسی طریقہ سے اس سورۃ میں صاف اعلان کیا گیا ہے کہ محمد ﷺ آپ کہہ تھے، إِنَّ صَلَوَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، ایک مومن کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ میری نماز، میرا روزہ، میری عبادت، میرا حج بلکہ میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لئے ہے، اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں، وہ سب اس سورۃ میں ذکر کی گئی ہیں، یہ سب اصول ہیں، اور اصول کی اہمیت کسی بھی مضمون میں زیادہ ہوتی ہے، احکام کا نمبر بعد میں آتا ہے (law) قانون اور کنڈیشن بعد میں آتے ہیں، پہلے اصول ہوتے ہیں، اسی لئے جب گھر بنایا جاتا ہے، تو اسکے پایوں کو بہت مضبوطی کے ساتھ بنایا جاتا ہے، اس کے پیچھے محنت کی جاتی ہے، اور اب جبکہ آرٹ جتنا زیادہ ڈیولپ ہو رہا ہے کنسٹرکشن کی لائی جتنی زیادہ آگے بڑھ رہی ہے اتنا زیادہ لوگ اس کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی قدرت کو چلنے نہیں کرنا چاہئے

اور اب تو ایسا زمانہ آگیا اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ان کنٹیکٹروں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی طاقت کے مقابلہ میں بھی چلنے کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے ہیں ان سے پوچھو کہ بھائی اس بلڈنگ کا اتنا بجٹ کیوں آیا؟ تو کہتے ہیں کہ ہم اس میں اسٹیل ڈال رہے ہیں کہ اگر زلزلہ آگیا یا کوئی (earth quack) آگیا تو بھی اس پر اثر نہیں پڑیگا۔

یہ خدا تعالیٰ کی قدرت کو چلنے نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اسٹیل میں کیا طاقت ہے، لوہے میں کیا طاقت ہو سکتی ہے، ارے سونے کی سیسے پکھلائی ہوئی دیواریں شیشہ نہیں شیشہ تو گلاس کو کہا جاتا ہے سیسے چھوٹی سین سے جوتا بنے ہرمن اور پیتل کو بولا جاتا ہے تو سیسے پلاٹی ہوئی دیواریں بھی کھڑی کر دی جائیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے وہ بھی نہیں ٹھہر سکتی ہیں، خدا کی قدرت کے سامنے کسی پائے کی اور کسی بندیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن پتی نہیں کیسے کیسے آرٹیسٹ اور کیسے کوٹرا کٹری کا کام کرنے والے باتیں کرتے ہیں، اور ہمارے مسلمان کوٹرا کٹر بھی اپنی زبان سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھائی اس کا بجٹ اتنا تھا، یہ پانچ لاکھ روپیہ بجٹ اس لئے ہو گیا تھا کہ ہم ارتھ کو بکا مقابلہ کر رہے ہیں، لا حoul ولا قوۃ الا باللہ غیر مسلم اگر کہے تو دوسری بات ہے، لیکن مسلمان کنسٹرکشن کے لئے ایسی باتیں کہنا مناسب نہیں ہیں۔

اسلام ان ساری باتوں کو توڑ دیتا ہے

میرے بھائیو۔ ان ساری باتوں کو اسلامی اصول توڑ دیتا ہے، اسلامک اصول انسان کے جگہ اس کے قلب اور اس کے دماغ میں اس عقیدہ کو راخ کر دیتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک لمحہ کے اندر، ایک منٹ اور ایک سکنڈ کے اندر اس بنائی ہوئی عمارت کو تباہ کر سکتے ہیں، اور یہ اتنا وقت بھی ہم کو سمجھانے کے لئے ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ اس وقت کے بھی محتاج نہیں ہے، مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا ہے اور یہ بات بھی آپ حضرات ذرا اچھے طریقے سے سن لیں کہ ہم جو بار بار بیانوں میں سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لفظ، کُنْ، ارشاد فرماتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے، تو وہ ہمیں سمجھانے کے لئے ہے ورنہ اللہ تعالیٰ تو اس کے بھی محتاج نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ لفظ، کُنْ، کے بھی محتاج نہیں ہے

اللہ تعالیٰ کو تو لفظ، کُنْ، بولنے کے بھی ضرورت نہیں ہے اس نے تو جو چاہا بس وہ عمل میں آگیا اور بہت سے محدثین نے ایک بات بڑی پتہ کی لکھی ہے کہ جب جنتی کو اتنا بڑا پا اور دیا جائے گا کہ اس کے سوچتے ہی ہر چیز اس کے سامنے آجائے گی اس کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی ایک جنتی کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا پا اور دیں گے کہ بیٹھے بیٹھے تمنا کرے گا اور سوچے گا کہ مجھے فلاں چیز کھانی ہے بس وہ حاضر ہو جائے گی، تو پھر خالق کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ چلا کہ یہ لفظ کُنْ کا کہنا صرف ہمیں سمجھانے کے لئے ہے، جس کو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو

لفظ، کُنْ، کہتا ہوں اور اس سے یہ سمجھانا لقصود ہے کہ کُنْ کہنے میں ایک سکنڈ کے اندر کا ایک لمحہ بھی نہیں لگتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی ایک سکنڈ کا ایک لمحہ بھی نہیں لگتا ہے، اور وہ کام وجود میں آ جاتا ہے یہ باقی سورہ انعام میں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔

سورہ انعام کی ہائی لائٹ

میں آپ کو اس سورۃ کی پوری ہائی لائٹ بتا دیتا ہوں، اصل میں ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ تراویح میں ہمارے نام کیا پیغام نشر (Massage Rly) کیا جاتا ہے ہمیں قرآن کیا حکم دیتا ہے تو میرے بھائیو! سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ذکر فرمایا اور اپنے طریقہ کو ذکر فرمایا نہیں اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اصول اور اسلام کی بنیاد اور اسلامی قوانین کو ذکر فرمایا سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے شباتی کو ذکر فرمایا کہ دنیا دنیا کیا کرتے ہو، اصل تو آخرت کی زندگی ہے دنیا اور دنیا کی زندگی تو کھلیل کو دکا سامان ہے، جیسے الیون پلز الیون $11+11$ کھلاڑی میدان میں اترتے ہیں لوگ بڑے جذبات کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں اور آپ کو معلوم ہو گا کہ کرکٹ کو دیکھنے کے لئے لوگ کئی سو کئی ہزار روپیہ کا نکٹ لیکر جاتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ کرکٹ ختم ہو جاتا ہے گراؤنڈ سمیٹ لیا جاتا ہے اور یہ میاں خالی جیب ہو کر گھر واپس آ جاتا ہے کس کا کیا گیا اسی کی جیب خالی ہوئی تو دنیا کے مزے میں کوئی لذت نہیں ہے اور وہ بہت ٹھوڑا بھی ہے، اسی کو فرمایا گیا ہے کہ، وَلَذَّتُهَا فَانِيَةٌ وَطَاعَتُهَا بَا قِيَةٍ

دنیا کا مزہ کتنی دیر کا ہے؟

کرکٹ کا اور ہو ولعب کا ایک دور چل پڑا ہے لیکن بتاؤ یہ مزہ کتنی دیر کا ہے؟ قرآن پاک نے بڑا چھا جملہ ارشاد فرمایا کہ **وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبٌ وَلَهُوَ لَعْبٌ**: لعب کا معنی ہے کھیل کو، کھیل کو دیں آدمی کتنا ٹائم بگاڑتا ہے یہاں لندن کے کرکٹ دیکھنے کے لئے لوگ کتنا ٹائم بگاڑتے ہیں، اور شرم آنی چاہئے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ کرکٹ کا میدان جنت ہے، کیسا جنت کو گرا یا ہے اور ہمارا مسلمان بھی یہی جملہ نقل کرتا ہے۔ مسلمانوں کو ایک ایک جملہ نقل کرنے سے پہلے سوچنا چاہئے ہمارے فارسی کے کہنے والوں نے کہا ہے کہ؛ **عقل دا عقل بايد**؛ کسی چیز کو نقل کرنے کے لئے عقل چاہئے اتنا اپنایا (follow) جا چکا ہے کہ لوگ ان کے جملے بھی اپنی زبان پر لاتے ہیں۔

ایک عاقل بالغ جملہ بولنے سے پہلے اس کو سوچے اور اس کو تو لے، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ: پہلے تو لو پھر بولو: پہلے تو لو کہ میں جو بول رہا ہوں اس کا وزن کتنا ہے، اور اس کا اثر میرے مذہب، اور میری شریعت پر اور میرے آخرت کے حساب پر کیا پڑے گا، چنانچہ قرآن مجید نے اس کو سمجھایا ہے کہ جو شخص کرکٹ کے میدان میں یا قلبال کے میدان میں اس کو دیکھنے کے لئے جائے، یا ٹیلی ویزن پر بیٹھتا ہے تو اس کا مزہ کتنی دیر کا ہے؟ زیادہ سے زیادہ چھ گھنٹے یا آٹھ گھنٹے کھیل ہوتا ہے، اس کے بعد کھیل سمت گیا، ختم ہو گئی بات، کوئی جیتا کوئی ہارا، بتاؤ اس نے ہمیں کیا دیدیا؟ لوگوں نے کتنے روپے بنائے، ایک بھی کھلاڑی ایسا ہے کہ اس کے چاہئے والے کو اس نے پانچ

پاؤ نڈ بھی دینے ہو، یہ چلتی ہے آپ کوئی ایسا کھلاڑی مجھ کو بتاؤ چاہے فٹبال کے میدان کا کھلاڑی ہو، یا کرکٹ کے میدان کا کھلاڑی ہو، یا کسی بھی میدان کا ہو، اس نے آپ کو کوئی انعام دیا ہو۔ وہ تھوڑی دیر کا مزہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ دنیا کی لذتیں اور دنیا کی زیست بھی ایسی ہی ہے چند دنوں کا یہ مزہ ہے۔

اپنے آپ کو سنبھالنے والا کامیاب ہے

اور اس دنیا کے اندر جس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور اس کے اندر اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لی اور جتنی اس کی عمر ہے اس نے اس کی قدر کر لی بس وہی کا میاب ہے انہیں لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ، وَلَدَّاُرُ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَعْقِلُونَ کہ یہ لوگ کامیاب ہیں اور انہی لوگوں کے لئے آخرت کا دامنی مکان ہے کہیں، يَتَّقُونَ، فرمایا کہیں يَعْلَمُونَ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے عجیب عجیب الفاظ بہت سی جگہوں پر ارشاد فرمائے ہیں، تو جو عقل رکھتے ہیں وہ صحیح ہیں کہ ہمارے لئے اصل مکان آخرت کا ہے۔

ایک عالمی نہ آدمی کو دعوت دی جائے کہ چلو آج ہم لندن کرکٹ دیکھنے کے لئے جائیں گے تو وہ کہے گا کہ ہمیں کیا ملنے والا ہے بھائی، یہاں سے لندن آنے جانے کے پچاس پاؤ نڈ پڑوں میں خرچ کریں اور اس کے لئے دن بھر کی محنت اور کمائی چلی جائے گی اور اس کے لئے لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا، اور کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ دین کا فائدہ اور نہ ہی دنیا کا فائدہ ہوگا، ہم تو جو فائدہ کا کام ہو گا وہی کریں گے، قرآن پاک نے فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبٌ وَلَهُوَ وَلَدَّاُرُ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَعْقِلُونَ، کہ

دنیوی زندگی لہو و لعب ہے اور عقل والے اس کے پیچھے اپنے کو برباد نہیں کرتے ہیں اور تقویٰ پر جو ہوتا ہے اس کی زندگی میں یہ بات آتی ہے۔

اس سورۃ میں ایک بڑے مسئلہ کا حل ہے

سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک سنت کو ارشاد فرمایا ہے، اور وہ اس زمانہ میں خاص طور پر ہماری رہنمائی کرتی ہے اور اس نے ہمارے لئے ایک بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے ذرا توجہ سے سئیے جو میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ اور میری عادت رہی ہے کہ پہلی امتوں میں اور اس امت میں بھی جب میں کسی امت کو گناہوں پر تلاہواد کیتھا ہوں، جب میں کسی قوم کو نافرمانیوں کی طرف جاتا ہوا دیکھتا ہوں تو اسکو چھنجھوڑنے کے لئے جانی و مالی، جسمانی، دولتی و ثروتی دونوں قسم کی بیماریوں میں اور دونوں قسم کی آفتوں میں بتلاء کر دیتا ہوں۔

اور ان آفتوں میں بتلاء کرنے میں میرا مقصد یہ ہے کہ بندے میری طرف رجوع کریں، نماز کی پابندی کریں، منہیات یعنی جن کاموں سے میں نے روکا ہے ان سے یہ بندے بازاً جائیں، اور اس آیت نے بہت بڑے سوال حل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا پر حالات کیوں لاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بیماریوں میں کیوں بتلاء کرتے ہیں؟ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے ارشاد ہے کہ فَاخْدُنَهُمْ بِالْبَاسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضْرِعُونَ، اللہ تعالیٰ اسی لئے دنیا والوں کو مصیبت میں بتلاء کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اور اسی مضمون کی ایک آیت نویں پارے کے

دوسرے رکوع میں بھی ارشاد فرمائی گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جملوں کو ادل بدل کر جھنجھوڑا ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ فَأَخَذُنَهُمْ بِالْبَاسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اور ایک مقام پر فرمایا کہ فَلَوْلَا إِذْجَاءَهُمْ بِاَسْنَاتِ تَضَرُّعٍ وَآكِيرًا، کہ جب ہماری طرف سے کوئی مصیبت یا کوئی آفت آئے، چاہے زندگی کی شکل میں ہو، یا کسی دبا کی شکل میں ہو، پھر ہم کسی کو ڈھیل نہیں دیتے ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو متنبہ کرنے اور ہم کو جگانے کے لئے آتے ہیں کہ جاگ جاؤ، اللہ تعالیٰ بڑے ارجام الراحمین ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو جگانے کے لئے بھی طریقے اختیار فرماتے ہیں ورنہ ہمیں کب کے سلاک رکھتا، اور عذاب بھیجا تو اسے کون پوچھنے والا ہے اور اگر زیادہ ہم کو غفلت کے پردوں میں رکھتا تو کون اس کو پوچھنے والا ہوتا اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اور کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے کہ آپ ایسا مت یکجئے۔

اللہ تعالیٰ کا معاملہ محبت والا ہے

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لئے کہ وہ تتوہہ مالک الملک ہے اگر میں اپنی قلم کو توڑ دالوں تو آپ مجھے پوچھنے والے کون ہوتے ہیں؟ اس لئے کہ یہ قلم میری ملکیت ہے، تو مالک اپنی ملکیت میں جو تصرف کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کا ہم لوگوں کے ساتھ بڑا محبت والا معاملہ ہے کہ وہ جب کبھی بھی ہم کو گناہوں پر آمادہ اور گناہوں کے اندر بیٹلا دیکھتا ہے تو کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار کرتا ہے۔ تاکہ انسان

دنیا کے اندر ہی سنبھل جائے، اسی لئے بیمار کی عیادت کرنے جب جاتے ہیں تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے، الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي عَافَنِی مِمَّنِ ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلٰی كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا۔ کہ اللہ تیراشکر ہے کہ تو نے مجھے اس جیسی بیماری میں بنتا نہیں فرمایا اس میں بھی یہی راز ہے کہ بندے سنبھل جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیماری آپ کو آگے اس کو سنبھلنے کا حکم ہو رہا ہے، اور وہ مزید اللہ تعالیٰ سے عافیت بھی مانگ رہا ہے۔ آج کل کی طرح نہیں، آج کل تو اس کو اور زیادہ ذرا یا جاتا ہے اس بیچارے کو بھی تودل پر حملہ (heart Fail) نہیں ہوتا ہے، عیادت کرنے والے حملہ کر دیتے ہیں اس کی عیادت کرنے جاتے ہیں، اور اس کے پاس خرچ وغیرہ کی تفصیل شروع کر دیتے ہیں بس خرچ کا نام سن کر اس کا ہارت فیل ہو جاتا ہے، اس طرح نہیں میرے بھائیو، عیادت کے بھی اصول ہیں اسلام نے اس کو بھی سکھایا ہے۔

حضور ﷺ کو اگلے پچھلے سب کا علم تھا

جناب نبی اکرم ﷺ کو پندرہویں صدی کے لوگوں کا علم تھا میں حضور ﷺ کے لئے علم غیب ثابت نہیں کر رہا ہوں لیکن ہمارے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ آپ ﷺ کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے حالات سے باخبر کر دیا گیا تھا اس لئے کہ آپ ﷺ قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی ہیں اور اسی کے نتیجہ میں حضور ﷺ نے فرمایا تھا: اُوْتَيْتُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ کہ مجھ کو اگلے پچھلے تمام لوگوں کا علم دیا گیا ہے، پہلے جو لوگ گزر گئے ان کا علم مجھے دیا گیا تھا کہ میں ان کی زندگیوں سے عبرت اور سبق لیکر اپنی امت کو سکھاتا رہوں اور قیامت تک آنے والے انسانوں

میں کیا کیا حالات آئیں گے وہ سب بھی میں اپنی امت کو بتاسکوں۔

صحابہ کرام نے سوالات ہمارے لئے فرمائے

اللہ تعالیٰ صاحبہ کرام کو جزاۓ خیر عطا فرمائے (امین) کہ جب بھی حضور ﷺ کوئی پیشیں گوئی فرماتے تھے تو صاحبہ کو تو یقین تھا ہی کہ اس زمانہ تک تو ہم جانے والے نہیں ہیں پھر بھی صاحبہ کرام پوچھ لیا کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول ﷺ اگر وہ زمانہ ہم میں ہو تو پھر آپ کی کیا رہبری ہے؟ ایسے وقت میں آپ کا کیا فرمان ہے ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے کبھی کبھی تو حضور ﷺ فرماتے کہ میرے بعد ایسے ایسے حالات آئیں گے صاحبہ کرام اندازہ بھی لگاتے کہ وہ حالات ہمیں دیکھنے کو بھی نہیں ملیں گے، لیکن ہم سب کے لئے صاحبہ کرام نے پوچھ لیا اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام تھا محدثین نے بالخصوص علامہ شبیر احمد عثمانیؒ نے لکھا ہے کہ صاحبہ کرام کے دلوں میں اللہ تعالیٰ یہ بات پیدا فرماتے تھے کہ وہ حضور ﷺ سے پوچھیں تاکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو صاحبہ کرام کے ان سوالات کے ذریعہ سبق مل جائے۔

حالات انبات پیدا کرنے کے لئے آتے ہیں

اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے مصیبت میں گرفتار کرتے ہیں، اسی لئے سورہ توبہ کے اخیر اخیر میں بھی ایک آیت میں فرمایا گیا، اَوَّلًا يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْسُدُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُونَ وَلَا هُمْ يَدْكُرُونَ، ان حالات میں یہ آیت پاک بہت اچھی روشنی ڈال

رہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ ایک ایک سال میں دو، دو، دفعہ میں ان پر مصیبت اتارتا ہوں کسی نہ کسی فتنہ یا کسی نہ کسی آزمائش میں انہیں بتلا کرتا ہوں پھر بھی یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور اب تو سال میں ایک دو دفعہ نہیں بلکہ روزانہ ہے، روزانہ طلوع ہونے والا سورج پتہ نہیں میرے بھائیو کیا خبر لایا گا، ذرا آپ ریڈیواون (on) کرو ٹیلی ویزن (television) کے کسی بھی چینل (chanel) کو آپ اون (on) کیجئے، پہلی خبر یہ ملے گی کہ فلاں کنٹری میں میں اتنے مسلمان گئے اور فلاں کنٹری (country) میں مسلمانوں پر حملہ ہوا یہ سب کیا ہے، ۳
لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔

حالات سنکر عمل نہ کرنا منافقوں کی عادت ہے

منافقین کی یہ عادت ذکر کی گئی کہ منافقین حالات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر وقت گزاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہوتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے گریباً نوں میں جھانک کر دیکھیں کہ روزانہ ہم مسلمانوں کے حالات سنتے ہیں ہم میں سے کس کو توفیق ہوئی کہ کم از کم دور کعت صلوٰۃ الحاجت پڑھ کر ہم نے امت اسلامیہ کی فلاح و بہبودی کے لئے دعا کی ہو، الاما شاء اللہ، ہم تبصرہ کر لینے کو فرض اور کافی سمجھتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کر لی کہ مسلمان دنیا میں بہت حیران ہیں جہاں دیکھو وہاں مسلمان حیران، تو گویا کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر لیا اور اپنے دل کو سکون دیتے ہیں کہ ہم نے تھوڑی بہت فکر تو کر لی۔ لیکن بتائیے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے اندر امت کیلئے رونے کی سنت کو پیدا کیا؟ کیا ہم

نے کبھی اس امت کی خاطر چند آنسو بھاۓ؟ اور یہ بھی سن لیجئے جس دن یہ سنت
ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو پھر دنیا میں انقلاب پیدا ہو جائے گا، یہ چلیخ ہے اگر ہم لوگوں
میں رونے کی سنت پیدا ہو گئی تو چلیخ ہے انشاء اللہ کہ پوری دنیا میں انقلاب پیدا
ہو جائے گا، مسلمان کا آنسو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا قیمتی ہے، مسلمان تو اللہ تعالیٰ کے
یہاں کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ قیمتی ہے، نسائی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ
کو گرانے کا اتنا گناہ نہیں ہوتا جتنا کہ کسی مسلمان کے دل کو توڑنے کا گناہ ہوتا ہے
مسلمان کا دل اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا قیمتی ہے، اس سے سمجھ میں آگیا کہ اس کا آنسو
کتنا قیمتی ہو گا، لیکن ہم آنسو بھاتے نہیں ہیں پسیے کے اندر بر باد ہوتا ہے تو آنسو بھاتے
ہیں، لیکن ہم سے قرآن جدا ہو رہا ہے اس پر تو ہم نے کبھی آنسو نہیں بھایا، دین ہم سے
 جدا ہو رہا ہے ہم نے کبھی آنسو نہیں بھایا۔

دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں

ہم سے سنتیں جدا ہو رہی ہیں، اس پر ہم نے کبھی آنسو نہیں بھایا جناب نبی
اکرم ﷺ نے فرمایا کہ دو قطرے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے پسندیدہ ہیں ایک تو اللہ
تعالیٰ کے راستے میں اس کے دین کو بلند کرنے کے لئے جو خون کا قطرہ بھایا جائے، اور
دوسراللہ تعالیٰ کے خوف سے آنکھ سے گرنے والا قطرہ، اگر کوئی آنسو کا قطرہ پیکتا ہے تو
اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بڑی قیمت ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بھی حالات اور
مصیبیتیں ہیں سورہ انعام کی اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو
متوجہ کرنے کے لئے ہے۔

عدم انبات دل کی سختی کے سبب ہوتی ہے

اور انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہوتے ہیں؟ قرآن پاک نے اس کا سبب بھی بتایا کہ لوگ مصیبتوں کو دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں ارشاد ہے۔ وَلِكُنْ قَسْتُ قُلُوبُهُمْ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دل کی سختی سب سے بڑا مہلک مرض ہے کامیاب ڈاکٹر (doctor) وہ ہوتا ہے، جو تشخیص صحیح کرے، بیماری کو پہچان لے، کامیاب ڈاکٹر بیماری کو پہچاننے کے بعد اس کا علاج (treatment) شروع کرتا ہے، اور اس بیماری کا سبب بتاتا ہے۔ اسی لئے جتنا میڈیکل (medical) میں نے پڑھا اور سمجھا بڑے بڑے ڈاکٹر چیکپ (check-up) کروانے میں خرچہ زیادہ کرواتے ہیں۔ اور دو بہت مختصر اور سستی لکھ کر دیتے ہیں۔

اور یہ ان کی کامیابی ہے۔ اور جھوٹا ڈاکٹر میریض کو اتنی بڑی پرچہ دیدیتا ہے کہ بس اللہ کی پناہ، اس کو بہت ساری گولیاں دیگا اور اس کا منشاء یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ گولی نہیں لگی تو یہ لگ جائیگی، جو بیماری دور کرنے کا سبب بنے گی تو جو ڈاکٹر جتنی زیادہ گولیاں دے، تو وہ ڈاکٹر اتنا ہی لوکل (local) ہے اور بڑے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ بیماری کو پکڑتے ہیں، اسی لئے ہمارے بروڈ شہر میں صرف رگ پکڑنے کے کئی سوروپیے لگ جاتے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹروں کے چمپر (chamber) میں گھسنے سے پہلے جیب میں ایک ہزار روپیہ ہونے چاہیے وہ صرف ہاتھ پکڑنے کے تین سوروپیہ لیتا ہے ایک تو ہاتھ بھی پکڑیں گے اور اور پر سے تین سوروپیہ بھی لیں گے اپنا اتنا قیمتی خون ہوتا ہے وہ بھی لیتے ہیں، اور اور پر سے پانچ سوروپیہ بھی خون چیکپ کے لیتے ہیں ارے بھائی خون بھی لے رہا ہے اور پیسے بھی لے رہا ہے۔

واقعہ

ایک واقعہ یاد آیا ہمارے مدرسوں میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے علماء کرام نے پڑھی ہوگی اس کا نام، نَفْحَةُ الْعَرَبِ، ہے اس میں حاجج بن یوسف کا بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے، حاجج بن یوسف ایک بادشاہ گزرا ہے اس کے بہت سے کمال بھی ہیں اور بہت سی خرابیاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا جو فیصلہ ہونا ہے وہ ہو گا، لیکن اس نے ایک بہت بڑا کارنا مہ انجام دیا ہے کہ اس نے قرآن پاک پر اعراب لگائے ہیں نقطے لگائے، جس کے نتیجہ میں ہم عجمی لوگ قرآن کو اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں، بہر حال حاجج بن یوسف نے ایک پیغام (circular) جاری کیا کہ رات کو گیارہ کے بعد کوئی بھی جوان روڈ پر نظر نہیں آنا چاہیے اگر کوئی بھی جوان نظر آئے تو اس کو اندر کر دو، اب حاجج بن یوسف کے پوس والے رات کو نکلے گیارہ، بارہ نج گئے تھے کچھ نو جوان نشہ میں چور تھے شراب پی کر ادھر ادھر لڑکھڑا رہے تھے تو پوس والوں کے ہاتھ تین نوجوان آئے، جب ان سے پوچھا گیا کہ تم کون ہو؟ تو ان میں سے ایک نوجوان نے یوں کہا کہ؛ آنا بُنْ مَنْ ذَانَتِ الرِّقَابُ لَهُ ؟ میں ایسے باپ کا بیٹا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے لوگوں کی گردن جھکتی ہے گردن بھی جھکاتے ہیں اور اوپر سے میرے باپ کو پیسے بھی دیتے ہیں، اور میرا باپ کہے کہ ادھر منہ کرو تو ادھر منہ کرنا پڑتا ہے اور کہے کہ نیچے دیکھو تو نیچے دیکھنا پڑتا ہے، اور اوپر کہے تو اوپر دیکھنا پڑتا ہے اور اپھے اپھے لوگ میرے باپ کے سامنے گردن جھکاتے ہیں۔ قصہ لمبا ہے حاجج

بن یوسف کی عدالت میں مقدمہ پیش کیا گیا، ایسے ایسے لوگ پڑے گئے تھے، ان میں سے ایک شخص نے یہ کہا اور اس کو پہچان بتلا یا شناخت (Identity) دیا کہ اس کا چہرہ ایسا ایسا تھا، چنانچہ اس کو پکڑ کر سامنے لاایا گیا تو پوچھا کہ تو کون ہے؟ گورنر کا بچہ ہو گا کوئی بہت بڑے فسٹر کا بچہ ہو گا اس نے کہا کہ میں حمام کا بیٹا ہوں کیا مطلب؟ مولا نا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ واقعہ نقل فرمایا ہے۔

میرے بھائیو، کیا حمام نہیں بولتا ہے کہ ایسا بیٹھو، ایسا کرو، چاہے بڑے سے بڑا آدمی ہی کیوں نہ ہو، وہ کہتا ہے کہ برابر بیٹھو، ما تھانیچے کرو پھر وہ اپنی کرسی کو ذرا اوپرچی کرتا ہے کہ اب ذرا ٹیک لگا کر بیٹھو، اور سترے سے کبھی بھی خون بھی نکل جاتا ہے اور اس کو پیسہ بھی دینا پڑتا ہے، تو کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے لوگ گردن جھکاتے ہیں اور وہ ان کا پیسہ بھی لیتا ہے اور خون بھی لیتا ہے، حجاج بن یوسف اس کے ادب کی شانستگی پر اس کے بول پر اتنا بڑا قربان ہو گیا کہ اس نے کہا کہ اس کو رہا کر دو، کہ تیری زبان میں کیا تاثیر ہے اگر تو کہتا کہ میں حمام کا بیٹا ہوں تو تجھ کو مارا جاتا لیکن تو نے اپنے باپ کا تعارف کتنے اچھے انداز میں کروایا اس کی زبان دانی پر اس کو معاف کر دیا۔ اور تمام عورتوں کا اجتماع کر کے اس نے تعلیم دی کہ اپنے اپنے بچوں کو اس طرح ادب سکھلاؤ۔

حمام دو طرح کے ہوتے ہیں

ایک حمام اردو کا بھی حمام ہے، اور ایک حمام عربی کا بھی حمام ہے یہ بھی سمجھا دوں عربی میں حمام اس کو کہتے ہیں جو پچھہ لگاتا ہے، حج اور عمرہ کے لئے عرب

میں جو لوگ جاتے ہیں انہوں نے دیکھا بھی ہو گا کہ سینگی لگائی جاتی ہے، کبھی شانہ پر کبھی ایڑی میں، جس سے خراب خون کو نکال لیا جاتا ہے یہ ایک بہترین علاج ہے حضور ﷺ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی اس کی ترغیب دلائی ہے لیکن اب کوئی ہم میں سے ایک دوسرے کا پچھہ لگانے کے لئے مت بیٹھ جانا اس کے لئے تو مہارت ہونی چاہیے، ورنہ کہاں سے کہاں لوچہ والی بات ہو جائیگی۔

اچھائی کو مد نظر رکھیں

حجاج بن یوسف بھلے کیسا ہی تھا لیکن اس نے قرآن پاک میں اعراب لگائے ہیں اور ہر آدمی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، اور کچھ نہ کچھ برا یا بھی ہوتی ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اچھائیوں کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ تو برائیوں کو معاف کر دیتا ہے سو میں سے اگر ننانوے خرابیاں ہوں اور اس میں ایک خوبی ہو تو ہمیں اس کی خوبی کو دیکھنا چاہیے ہمارا معمول یہ بن گیا ہے کہ اگر اس بے چارے کے اندر ننانوے خوبیاں ہوں، اور ایک خرابی ہو تو ہم ساری خوبیوں پر پانی پھر دیتے ہیں۔

حضرت جی مولا نا انعام الحسن صاحبؒ کا ملفوظ

امت کے لئے ہمیں رونا چاہیے اسی لئے حضرت جی مولا نا محمد انعام الحسن صاحبؒ کے جملے مجھے برابر یاد ہیں، کسی جگہ بخاری شریف کے ختم پر آپ نے فرمایا تھا کہ امت نے رونے کی سنت چھوڑ دی ہے امت رونہیں رہی ہے، اسی لئے وہ آج کمزوریوں کا شکار ہے، روکرہی انسان اپنے مسائل کو حل کرو اسکتا ہے، خالق اور مخلوق

کے درمیان دن میں کم از کم پندرہ منٹ کا ایسا وقت ہونا چاہئے کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی تیسرانہیں ہونا چاہئے کم از کم بول رہا ہوں یہوی تک کو اس کا علم نہ ہو، پھر اگر آدمی اپنے اندر رونے کی سنت کو پیدا کریگا تو چلنے ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاء اللہ دنیا میں انقلاب پیدا فرمائیں گے۔ میرے بھائیو کامیاب ڈاکٹروہ ہوتا ہے جو بیماری کے اصل سبب کو پہچان لے کہ بیماری کہاں سے آئی، اور سب سے بڑے حکیم اللہ تعالیٰ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نہیں پہچانے گا تو پھر کون پہچانے گا؟ اللہ تعالیٰ نے مرض بتلا دیا وہ سب سے بڑے حکیم ہیں۔

دو چیزوں سے دل سخت ہو جاتے ہیں

قرآن پاک نے ذکر کیا کہ، وَلِكُنْ قَسْتُ قُلُوبُهُمْ، دل سخت ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے آدمی کے اندر سے توبہ کا مادہ ختم ہو گیا اور دل دو چیزوں کی وجہ سے سخت ہوتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت میں حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب مال کی محبت اور موت سے نفرت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے، مال کی محبت جب دل میں رچ بس جاتی ہے اور موت سے آدمی کو ڈر لگنے لگتا ہے تو دونوں چیزوں آدمی کے دل کو سخت بنادیتی ہیں اور دونوں چیزوں ایک دوسرے کے لئے لازم ملزوم کی حیثیت رکھتی ہیں موت سے آدمی کو اسی وقت ڈر لگتا ہے جب کہ آدمی کو مال سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے اس لئے کہ موت کی صورت میں مال کے چھوٹ جانے کا خطرہ رہتا ہے کہ میرا مال چھوٹ جائیگا اسی لئے قرآن پاک نے کہا کہ، وَلِكُنْ قَسْتُ قُلُوبُهُمْ، تو ہمیں دل کی سختی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔

دل کی سختی کیسے دور ہو گی؟

اور دل کی سختی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوتی ہے، ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت کے انوارات اور رحمت کے چشمے پھوٹتے ہیں انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے تو قرآن نے شکایت کی کہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ پھر اور پھاڑ بھی اس کے سامنے شرم جاتے ہیں پہلے پارے کے نویں روئے کو آپ پڑھئے، ثُمَّ قَسْتُ فُلُوْبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحَجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً : کہ انسانوں کے دل جب سخت ہوجاتے ہیں تو پھر بھی اس کے سامنے شرم جاتے ہیں، جس پھر پر پانی لگاتا اور مسلسل گرتا ہے اور اگر مسلسل بارش برستی ہے تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے اس میں بھی چشمے پھوٹنے لگتے ہیں لیکن انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے رات دن قرآن مجید سنایا جائے، حدیث کی تعلیمات سنائی جائیں، لیکن وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہوتا ہے، اسی کو شیخ سعدی نے فرمایا کہ، جب دل گرد جبلت نہ گرد: کہ پھاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ سکتا ہے لیکن آدمی کی فطرت نہیں بدلتی ہے، تو دل کی سختی کو دور کرنے کے لئے ہمیں روزانہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، میرے دوستو!! اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور جب دل کی سختی دور ہو جاتی ہے تو پھر حق بات اس پر اثر کرتی ہے۔

بد نظری دل کی سختی کا باعث ہے

حضرت باندویؒ سے کسی نے شکایت کی کہ حضرت مجھے دعاوں میں رونا نہیں

آتا ہے حضرت نے فرمایا کہ تمہارا دل سخت ہو چکا ہے اور اس دل کے سخت ہونے کا سب سے بڑا سبب بدنظری ہے اب اگر آپ کہیں کہ ہم تو بدنظری تو کرتے نہیں ہیں ہم کہاں پر اپنی ماڈل اور بہنوں کو دیکھتے ہیں، تو میرے بھائیو ٹیلی ویزنا دیکھنا بھی پر اپنی ماڈل اور بہنوں کو دیکھنا ہے صاف بات ہے ٹیلی ویزنا بھی کیا ہے؟ اس میں بھی پر اپنی ماڈل بہنوں کو ایڈوٹائز (Advertise) کو ادھر ادھر کی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اس سے بھی آدمی کی نظر خراب ہوتی ہے اور پھر نظر کے ذریعہ ہی بعد کی ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اسی لئے حضور ﷺ نے یہ فرمایا کہ پہلے ہی بریک لگادی، زنا العینینِ النَّظَرُ، کہ انہوں کا زنا بدنظری ہے، آدمی جتنی اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے اتنا ہی اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اور نور کے پیدا ہونے کے بعد سختی خود بخود ختم ہو جاتی ہے، یہ بات آپ آزماء کر دیکھنے کے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل کی سختی دور ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو اسلامی اصول سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، امین جس کی زندگی میں یہ مبارک اصول آگئے تو وہ دونوں جہاں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔

وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَمَ عَلَى سَيِّدِنَا وَمُولَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَلْهَ وَاصْحَابِهِ جَمِيعِينَ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بسم الله الرحمن الرحيم

اقتباس

اور جنتی لوگوں کے بارے میں قرآن پاک بہت اچھے انداز میں فرماتا ہے کہ جنتی لوگ آپس میں بڑی محبت کے ساتھ بیٹھے ہو گے ارشاد ہے وَنَزَّعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ، جنتیوں کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کینہ وغیرہ سب نکال دیں گے، انکے دلوں میں ذرہ برابر کینہ نہیں ہو گا، کیوں؟ اس لئے کہ وہ جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے جہاں انسان کو ہر قسم کی تکلیف سے نجات دی جائیگی اور کینہ میں تکلیف ہے تو پتہ چلا کہ جنت میں انسان کو کینہ نہیں ہو گا، دنیا میں تو ایک دوسرے کے دل میں کینہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہی ہے آدمی چاہے کتنی ہی کو شش کرے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ ایک دوسرے کی خیر کو دیکھ کر حسد نہ ہو تو کچھ نہ کچھ جذبہ آہی جاتا ہے اسی لئے تو کینہ نکلنے کی دعا کرنے کیلئے کہا گیا ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

اصحاب اعراف کون ہیں

الحمد لله وحده، والصلوة والسلام على من لا نبي بعده
وعلى آله واصحابه الذين اوفوا عهده، اما بعد، فاعوذ بالله من
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، المص، كتب أنزلَ
إِلَيْكَ فَلَا يُكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَّاجٌ مِنْهُ لِتُتَذَمِّرَ بِهِ وَذِكْرُهِ لِلْمُؤْمِنِينَ،
إِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أُولَئِكَ، قَلِيلًا مَّا
تَذَكَّرُونَ، صدق الله العظيم.

معزز بھائیودوستوار بزرگو!! آج ہم نے تراویح میں سورہ اعراف کی تلاوت سنی ہے اس کے اندر قرآن مجید نے تین قسم کے انسانوں کا تذکرہ فرمایا ہے جنتی اور جہنمی، اور اصحاب اعراف، اور انکی آپس کی گفتگو، یہ ایک دوسرے سے کیا مکالمہ کریں گے، جنتی لوگ جہنمیوں سے کیا کہیں گے جہنمی لوگ جنتیوں سے کس چیز کا مطالبہ کریں گے ان ساری باتوں کو سورہ اعراف میں بیان کیا گیا ہے جو ایک اہم ترین مضمون ہے۔

اعراف کیا چیز ہے؟

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہو گی جسکی

وجہ سے جنت کی سُخنِ دُک جہنمیوں کو نہ پہوچ سکے گی، اور جہنمیوں کی گرمی جنتیوں کو نہ پہوچ سکے گی اسلئے کہ اللہ تعالیٰ بیچ میں پاٹیشنا بنادیں گے قرآن پاک کہتا ہے وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، کہ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک حجاب ہو گا ایک پاٹیشن اور ایک دیوار ہو گی، اور اس دیوار کے اوپر جو لوگ ہونگے انہیں اصحاب اعراف کہا جاتا ہے جونہ جنتی ہونگے اور نہ جہنمی ہونگے وہ لوگ بیچ میں کیوں ہونگے؟ اور یہ کون لوگ ہونگے؟ حضرات مفسرین کا اسمیں بڑا اچھا کلام ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں، الَّذِينَ اسْتَوْثَ حَسَنَاتُهُمْ وَسَيِّئَاتُهُمْ، جن کی زندگی میں نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر (Equal) ہو گئی، کوئی بھی ایک پلڑا بھاری نہیں ہو گا، نہ اس نے زیادہ نیکیاں کی ہو گی اور نہ اس نے زیادہ برائیاں اپنی زندگی میں کی ہو گی تو جن کے پلڑے میں نیکیاں اور برائیاں برابر سر ابر ہو گئی ان کو اصحاب اعراف کہا جاتا ہے۔

وزن برق ہے

فَمَنْ ثَقُلَ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَمَنْ خَفَّ
مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِإِيمَانِهِ يَظْلِمُونَ:
جر کا پلڑا اعمال کے اعتبار سے بھاری ہو گا وہ کامیاب ہو جائیگا اس لئے کہ قیامت کے دن وزن کیا جائیگا اہل سنت وال جماعت کا یہ متفقہ فیصلہ اور عقیدہ ہے اور اسی عقیدہ پر ایمان کی اساس اور بنیاد ہے۔ علامہ تفتازانیؒ کی ایک کتاب شرح عقائد نام کی ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اور اسی طریقہ سے مکتب میں تعلیم الاسلام اور دینی تعلیم

کا رسالہ وغیرہ جو پڑھایا جاتا ہے بچپن میں ہم نے اگر اسکو پڑھا ہو، اور اسکو اپنے دماغوں میں بٹھایا ہو تو ہمیں یاد ہو گا اس میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن وزن کیا جانا برق ہے ہم ان چھوٹی چھوٹی کتابوں کو بھی حقیر نہ سمجھیں۔

وزن کے لئے شیء کا نظر آنا ضروری نہیں ہے

وزن برق ہے ہماری سمجھ میں آئے یانہ آئے، اور اب جو مورڈن ٹکنالوجی آئی ہے اس سے سمجھنا اور زیادہ آسان ہو گیا، پہلے تو یہ سوال ہوتا تھا کہ نظر نہ آنے والی چیز کیسے ناپا جائیگا لیکن آج کے دور نے اس کو آسان کر دیا کہ تھرمائیٹر کے ذریعہ نظر نہ آنے والی چیزوں کو بھی ناپا جاتا ہے اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آدمی نے کوئی نماز پڑھی ہے اسکا خارج میں وجود تو نہیں ہے میں رکعت تراویح پڑھی ہے کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ ہے میری تراویح کی میں رکعت، کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ میں نے آج دس پاروں کی تلاوت کی ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ میرے دس پاروں کی تلاوت ہے کوئی بتا سکتا ہے کہ میں نے اتنے روپیہ کی زکوٰۃ ادا کی وہ یہ ہے، صدقہ ادا کیا اور بتائے کہ یہ میرا صدقہ ہے۔ لیکن ان سب کو قیامت کے دن ناپا جائے گا۔

وزن کس کا کیا جائے گا؟

قرآن پاک کہتا ہے کہ **وَالْوَزْنُ يَوْمَئِدِ الْحَقُّ** قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جائے گا، وزن کیا جانا برق ہے لیکن سوال یہ ہے کہ وزن کس چیز کا کیا جائیگا؟ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وزن اعمال کا ہی ہو گا اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وزن انسان کے اعمال کا نہیں ہو گا بلکہ اعمال کرنے والے خود انسان کا ہو گا انسان دیکھنے

میں دبلا پتلا ہے لیکن اسکے اعمال مضبوط ہو گئے تو آئکی وجہ سے اس کا پلڑا بھاری ہو گا۔

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کا واقعہ

اور اس پر دلیل یہ ہے بخاری شریف میں بہت دلچسپ واقعہ ہے سیدنا حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ ایک مرتبہ جناب نبی اکرم ﷺ کی مسوک درخت کے لئے درخت پر چڑھے، مسوک توز میں سے نکالی جاتی ہے لیکن نیم وغیرہ کی مسوک درخت پر مسوک کے اوپر سے نکالی جاتی ہے، بہر حال حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ درخت پر مسوک توز نے کے لئے چڑھے حضرت عبد اللہ بن مسعود حضور اکرم ﷺ کے خاص خادموں میں سے ہیں اور اسی طرح حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہے حضرت حذیفة الیمان ہے یہ لوگ بھی اللہ کے رسول ﷺ کے خادموں میں سے تھے اور حضرت انس بن مالکؓ تو سرفہrst ہیں اور حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ ان چار صحابہ کرام نے حضور اکرم ﷺ کی بہت خدمت کی حضور ﷺ کے وضو کا پانی اٹھا کر چنانا حضور ﷺ کی مسوک کو صاف رکھنا آپ ﷺ کے کپڑوں کو اٹھانا اور حضور ﷺ کی ضروریات کی چیزوں کو ساتھ لیکر چنانا یہ سب کام وہ کرتے تھے اور حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ تو وہ صحابی ہے کہ حضور اکرم ﷺ جب جناتوں میں تبلیغ کے لئے تشریف لے گئے تھے تو اس موقع پر بھی حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ ساتھ تھے، جناتوں کے مطالبہ پر حضور اکرم ﷺ ایک جماعت کی شکل میں انکے درمیان تشریف لے گئے تھے تو حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کو ساتھ لیا اور اصل مقام پر پہنچ کر ایک گول دائرہ کھینچا اور حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے فرمایا کہ تم اسی میں مت آنا تم اسکی تاب نہیں لاسکتے ہو۔ میں تم کو جہاں

ٹھہرا تا ہوں تم وہیں ٹھہرنا، خیر حضرت عبد اللہ ابن مسعود مسواک توڑنے کے لئے درخت پر چڑھے، حضرت عبد اللہ ابن مسعود کی ٹانگیں بہت پتی تھیں، پیر بہت پتلے تھے، صحابہ کرام وہاں جمع تھے (جنت والا واقعہ الگ ہے اور میں جو واقعہ نقل کر رہا ہوں وہ الگ ہے) جب صحابہ کرام نے حضرت عبد اللہ ابن مسعود کی ٹانگوں کو پتلی پتلی دیکھا تو ہنس پڑے کہ یہ کتنی پتلی پتلی ٹانگیں ہیں کتنے بار یک بار یک پیر ہیں حضور اکرم ﷺ نے دیکھا اور آپ ﷺ سمجھ گئے کہ صحابہ کرام کیوں ہنس رہے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا۔

لِرِجَالِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ اَتَقْلُ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
کہ عبد اللہ بن مسعود کی ان دونوں ٹانگوں کا وزن قیامت کے دن پوری امت کے اعمال میں سب سے زیادہ وزندار ہو گا پورے امت کے اعمال ایک طرف اور پوری امت کا ثواب ایک طرف، اَتَقْلُ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سب سے زیادہ وزندار چیز قیامت کے دن اگر کوئی ہو گی تو وہ عبد اللہ بن مسعود کی یہ دونوں ٹانگیں ہو گیں دیکھنے میں تو بڑی پتلی ٹانگیں ہیں لیکن اس نے اسلام کی راہ میں قربانیاں دیں اس نے اسلام کی راہ میں نبی ﷺ کی راہ میں، دعوت و تبلیغ کی راہ میں اپنے پیروں کو تھکا دیا ہے اسلئے قیامت کے دن یہ دونوں پیر سب سے زیادہ وزندار ہونگے اس سے سمجھ میں آتا ہے میرے بھائیو کہ خود انسان کی ذات کا وزن ہو گا۔

دوسراؤں وزن اعمال کا ہوگا

اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اعمال کو

ایک خاص قسم کی شکل دیں گے، شاہ ولی اللہؐ نے لکھا ہے اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ عمل کی ایک خاص شکل ہوگی روزے کی ایک خاص شکل ہوگی اور وہ عالم غیب ہے اسکو اس دنیا پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، نہ سمجھ میں آئے تب بھی ہم کو اس پر ایمان لانا ضروری ہے اگر آخرت کی ہر چیز سمجھ میں آجائے تو پھر **الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ** ، غیب پر ایمان لانے کا کام مطلب؟

ہم ہر چیز کو اپنی عقل پر نہ جانچیں

(Educated Person) بہت سے لوگ جو آج کل تعلیم یافتہ

ہوتے ہیں وہ آخرت کی ہر چیز کو اپنی میدیا میکل اور لکننا لو جی پر پر کھنا چاہتے ہیں یہ ذرا بیوقوفی کی بات ہے، اس لئے کہ یہ سب غیب کی خبریں ہیں، میں ان لوگوں سے پہلا سوال کرتا ہوں جو یہ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب قبر میں عذاب ہو گا یہ سمجھ میں نہیں آتا، ملائکہ ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتے، تو دیکھئے قیامت کے دن یہ سب ہو گا اور سنو، ہمارے اندر ایک روح ہے جسکے مل بوتے پر ہم قائم ہیں بتاؤ یہ بھی کہاں نظر آتی ہے اور وہ کیا چیز ہے؟ سمجھ میں نہ آنے کے باوجود ہم اسے تسلیم کرتے ہیں یا نہیں؟ پہلے یہ ثابت کر کے بتاؤ، یہ ہمارا چلنخ ہے اور قیامت تک چلنخ رہے گا کہ کوئی یہ ثابت کر دے کہ روح کیا چیز ہے لیکن اسکو ہر ایک مانتا ہے قرآن پاک نے خاموش کر دیا کہ **وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيْ** ، کہد و کہ روح تمہاری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے یہ تو میرے رب کے آرڈر کا نام ہے، رب کا حکم ہوتا ہے تو تین ساری ہیں تین یا چار مہینہ بعد روح بچے کے اندر پھونکی جاتی ہے، اور رب کا آرڈر ہوتا

ہے تو اسکو کھینچ لیا جاتا ہے تو بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اعمال کو مستقل ایک شکل دی جائیگی اور اسکو تو لا جائیگا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب آدمی کو دفن کیا جاتا ہے اگر وہ مومن ہے تو نماز ایک طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور روزہ ایک طرف سے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور تلاوت ایک طرف سے کھڑی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ انکو شکل عطا فرمائیں گے۔

وزن کے مسئلہ کو سائنس نے آسان کر دیا

لیکن علامہ شبیر احمد عثمانی نے ایک بڑی پتہ کی بات لکھی ہے کہ آج کی سائنس نے اس بات کو سمجھنا آسان کر دیا اس طور پر کہ درجہ حرارت (Temprature) دیکھنے میں نہیں آتا لیکن، اسکونا پا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ تھرما میٹر کو اگر آپ بغل کے نیچے یا زبان کے نیچے رکھ دے گے تو بتایا جاتا ہے کہ بخار 98 ہے اور جس کو نور مل (Normal) سمجھا جاتا ہے 98 سے سو کے درمیان ہے تو کوئی خطرہ کی بات نہیں ہے اور گرسو سے اوپر ہو جائے تو پھر ذرا سوچنا پڑتا ہے ایک سو پانچ ہو گیا تو پھر اور زیادہ خطرہ کی گھنٹی ہے یہ جو ٹیپر پیچر کونا پا جاتا ہے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ ٹیپر پیچر ہے؟ ٹیپر پیچر تو نظر نہیں آتا ہے، صرف حرارت ہوتی ہے لیکن یہنا پا اور تو لا کس چیز کو جاتا ہے جی ہاں نظر نہ آنے والی چیز کونا پا جاتا ہے، اسی طریقہ سے یہ جو ٹیپر پیچر ہوتا ہے کہ بھائی اتنے تاپ مان کی ڈگری ہے اور اتنا ٹیپر پیچر ہے اور اتنا درجہ حرارت ہے اس کو نظر نہ آنے کے باوجود ناپا جاتا ہے۔ اور دیکھو بدلہ پریشر (Blood pressure) کو چیک کیا جاتا ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں اس کے باوجود اسکونا پا جاتا ہے

اور چیک کیا جاتا ہے پتہ چلا کہ اعمال کو بھی نظر آئے بغیر ناپا جا سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب مخلوق کو اتنا پا اور ارتقی قدرت دے سکتا ہے کہ نہنا پے جانیوالی چیزوں کو بھی اور نظر نہ آنے والی چیزوں کو بھی اور نہ محسوس کی جانے والی چیزوں کو بھی ناپا، تو لا اور پرکھا جا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے زیادہ قادر مطلق ہے وہ کیوں نہیں ناپ سکتا، بہر حال تو قیامت کے دن ایک تو وہ لوگ ہونگے جنکے اعمال کا پلڑا بھاری ہو گا اور ایسے لوگ ہی کامیاب ہیں، تیسویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ، **فَأَمَّا مَنْ ثَقُلْتَ مَوَآزِينَهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ**، اور دیکھو دنیا میں بھی وزن کرنے کے پلڑے الگ الگ ہوتے ہیں ہمارے بزرگوں نے مثال دی ہے کہ ہر ایک چیز کا وزن الگ مشین پر کیا جاتا ہے سونے کا وزن الگ مشین پر کیا جاتا ہے اور انچ اور غلہ کا وزن الگ مشین پر کیا جاتا ہے لو ہے کونا پنے اور تو لئے کے کے لئے الگ مشین ہوتی ہے پتہ چلا کہ اعمال کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی الگ مشین رکھی ہو گی۔

اعراف پر کون لوگ ہونگے؟

میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیو، کہ اعرف پر یعنی جنت اور جہنم کے درمیان جو پارٹیشن کی دیوار ہو گی، اس پر وہ لوگ ہونگے جنکی نیکیاں اور برائیاں برابر سرا بر (Equal) ہو گی نہ نیکیوں کا پلڑا بھاری اور نہ ہی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں تو انصاف ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں بھی داخل نہیں فرمائیں گے، اسلئے کہ برائیوں کا پلڑا بھاری نہیں ہے، لہذا انکو درمیان میں ہی رکھا جائے گا ان کو جنت کی ٹھنڈی ہوا نہیں پہنچتی رہے گیں۔

اصحاب اعراف کا جہنمیوں سے سوال

اور یہ اصحاب اعراف جہنمیوں کے عذاب میں اضافہ کرنے کے لئے وہاں رکھے جائیں گے، میں آپ کو قرآن مجید سمجھا رہا ہوں، قرآن مجید فرماتا ہے، وَنَا دِيْ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجَا لَيْعِرْفُونَهُمْ بِسِيمِهِمْ کہ یہ جہنم کی پاٹیش کی دیوار پر جو لوگ ہونگے وہ جہنمیوں کی طرف جھانک کر کہیں گے، مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، کہ تم نے دنیا میں جو مال و دولت اکھڑی کر رکھی تھی بڑے بڑے عہدے تم نے جمع کر رکھے تھے، اپنے بنس کو جو ڈیلوپ کیا تھا اور برطی بڑی فیکٹریاں جو قائم کی تھیں اور تم نے اتنے اکاؤنٹ جمع کر رکھے تھے اور تم بہت اتراترا کر چلتے تھے، وہ سب کہاں ہیں؟ اور یہ کیا بات ہے کہ تم جہنم میں پڑے ہوئے ہوئے ہو؟ اور اس طرح سوالات کر کر کے ان کو اور زیادہ عذاب دینے لگیں گے اور جب جنتیوں کی طرف اشارہ کریں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنکے بارے میں تم دنیا میں کہا کرتے تھے کہ یہ تو رذیل قوم ہے، دیکھو یہ جنت کے اندر کیسے مزے لوٹ رہے ہیں یہ اصحاب اعراف ہونگے دونوں کو نشانیوں سے پہچانیں گے، يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمِهِمْ، یعنی اصحاب اعراف جنتیوں اور جہنمیوں کو چند مخصوص نشانیوں سے پہچانیں گے اور اس طرح کے سوالات کریں گے۔

جنتی حضرات کا جہنمیوں سے سوال

پھر جنتی حضرات کو اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کا اختیار دیں گے جنتی حضرات

جہنمیوں سے بات کریں گے، وَنَا دِي أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقًّا: کہ ہمارے رب نے ہم سے قرآن میں جو وعدہ کیا تھا ہم نے اسکو صحیح یہاں پالیا ہم نے اسکو برابر پالیا۔ اور اے جہنمیوں کیا تم بھی اپنے انجام کو پہنچ گئے اس کے بعد ایک اعلان ہو گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے جیسے آرڈر ہوتا چلا جائیگا ویسے مختلف قسم کے اناؤنس میٹ ہوتے جائیں گے، ایک اعلان یہ ہو گا کہ ،الَّا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، کہ اللہ کی پھٹکار ہو ظالموں پر، جو دنیا میں نیک اعمال کرنے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور صحیح بولنے والوں کے اوپر مختلف قسم کی آفیں لاتے تھے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والوں پر مختلف قسم کے جملے کسا کرتے تھے ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی پھٹکار ہو۔

اہل جنت نعمتوں میں ہوں گے

اور جنتی لوگوں کے بارے میں قرآن پاک بہت اچھے انداز میں فرماتا ہے کہ جنتی لوگ آپس میں بڑی محبت کے ساتھ بیٹھے ہونگے صاف دل ہونگے، ارشاد ہے وَنَرَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ، جنتیوں کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کینہ وغیرہ سب نکال دیں گے انکے دلوں میں ذرہ برابر کینہ نہیں ہو گا، اور جنتی حضرات کے دل سے کینہ کیوں نکالا جائیگا؟ اسکی بہت اچھی وجہ ہمارے علماء نے لکھی ہے کہ کینہ اور شمنی، حسد، اور کسی پر جلن اس وقت ہوتی ہے جبکہ اسکو ایسا لگے کہ یہ چیز مجھے ملنی چاہئے تھی لیکن مجھے نہیں ملی اور اسکو کیوں ملی؟ اسکا حقدار تو میں تھا، اسکا دعویدار تو میں تھا، مجھے یہ چیز ملنی چاہئے تھی، اس کو یہ مال و دولت اور یہ ثروت کیوں مل گئی، ایسی

صورت میں آدمی ایک دوسرے پر کینہ کرتا ہے لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اسکے حق سے زیادہ نعمتیں دے گا اب دوسرے پر حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آدمی وہاں کہے گا، **الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَّا نَا لِهُدَاءٍ**، اللہ کے لئے تعریف ہے کہ اس نے ہم کو جنت تک پہنچا دیا۔

کینہ نکلنے کی دعا

اور کینہ پیدا ہونا انسان کی فطرت ہے ایسا ہوتا ہی ہے آدمی چاہے کتنی ہی کوشش کرے لیکن یہ انسان کی فطرت ہے کہ ایک دوسرے کی خیر کو دیکھ کر حسد نہ ہو تو کچھ نہ کچھ جذبہ آہی جاتا ہے، اسی لئے تو کینہ نکلنے کی دعا کرنے کیلئے کہا گیا ہے۔ اسلام نے کینہ سے بچنے کی دعا بھی ارشاد فرمائی ہے اور وہ دعا یہ ہے، **رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلّذِينَ آمَنُوا**، حضور اکرم ﷺ سے فرمایا گیا کہ اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائیے، اور ان لوگوں کی بھی جو ہم سے پہلے ایمان کی دولت لیکر چلے گئے، انکی بھی مغفرت فرمائیے، اور کسی بھی ایمان والے بھائی کے بارے میں ہمارے دل میں کینہ مت پیدا فرمائیے۔ تو میرے بھائیو، جنتی حضرات کے دل سے بالکل کینہ نکال لیا جائے گا سورہ صفت کی آیات بتاتی ہیں کہ خاص قسم کی شراب جنتیوں کو پلائی جائیگی اور اس شراب کا خاصہ یہ ہو گا کہ جنتیوں کے دلوں میں کینہ نہ ہو گا حسد نہیں ہو گا بغض اور عداوت نہیں ہو گی، بھائی چارگی ہو گی، محبت اور اخوت ہو گی۔

جنتیوں سے جہنمیوں کی فریاد

اور پھر فرمایا کہ جہنمی لوگ جب گرمی کو برداشت نہیں کر سکیں گے، تیپر پچران کے قابو سے باہر ہو جائیگا تو پھر وہ جنتیوں سے کہلوائیں گے، کہ **أَفِيْضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ**، کہ تھوڑا سا پانی بھی جو جب مصیبت آتی ہے تو یہی صورت ہوتی ہے ابھی سورت میں جو سیال ب آیا تھا بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ ایسے تھے جو ایک بولن پانی کے لئے ترظیت پتے تھے، گھر میں سب کچھ پڑا ہے، اور سب سے پہلے سورت میں جو کام شروع کیا گیا تھا وہ پانی کو تقسیم کرنے کا تھا لوگوں کے پاس پانی ہی نہیں تھا۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔

جنت کی چیزیں کافروں پر حرام ہے

تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیو کہ جہنمی جنتیوں سے پانی مانگیں گے جس کو قرآن نے فرمایا، **أَفِيْضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ**، علماء نے ذکر کیا ہے کہ مِن، یہاں پر تبعیضیہ ہے، مراد یہ ہے کہ تھوڑا سا پانی دیدو، ہمارے لئے بہت کام کا ہو گا یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہو، اس میں سے تھوڑا سپلاٹی کر دو، پیچھے کے راستے سے آگے کے راستے سے کہیں سے بھی سپلاٹی کر دو جنتی لوگ اسوقت کہیں گے، **إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ**، اللہ تعالیٰ نے جنت کی کوئی بھی چیز تمہارے لئے حلال نہیں کی ہے اس لئے کہ تم نے دنیا ہی میں جنت کے مزے لوٹ لئے آج جنت ہمارے لئے ہے ایک بھی چیز تمکو نہیں ملے گی کیوں؟ اسلئے کہ تم نے دنیا میں کتاب و سنت کا مذاق اڑایا

دنیا میں تم نے اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ ﷺ کی سنتوں کا مذاق اڑایا تھا، اب اسکے نتیجہ میں تم کو کچھ بھی نہیں ملے گا، سورہ اعراف نے ان حقیقوتوں کو کھولا ہے، اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اہم ترین نعمتوں کا بھی تذکرہ بھی فرمایا ہے، اسی طریقہ سے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر کی جانے والی سب سے بڑی نعمت جو لباس کی شکل میں ہے اس کو بھی ذکر فرمایا ارشاد ہے یعنی آدمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَأْ سَأْ يُؤَارِي سَوْ آتِكُمْ وَرِيشًا۔

پانی کے بغیر زندگی کا گزارا، ناممکن

اور پانی کے بغیر زندگی گز رہی نہیں سکتی آدمی بھوکارہ سکتا ہے لیکن پیاسا نہیں رہ سکتا، اسی لئے آپ نے دیکھا ہوا کہ جن لوگوں کی موت کا وقت قریب آتا ہے ان کا کھانا بند ہو جاتا ہے تب بھی زندگی کی امید قائم رکھی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ زندہ ہو، اور جب پانی بند ہو جائے تو پھر سب گھروالے ہاتھ اور پرکر لیتے ہیں کہ اسکو پانی بھی نہیں جا رہا ہے بلکہ واپس آ رہا ہے مطلب یہ ہے کہ اب اسکی زندگی نہیں رہی پانی (Liquid) کے اوپر سارا دارود مدار ہے۔

انسان کی ابتدائی غذا بھی پانی ہی ہے

اور بچہ بھی دیٹھ دوسال پانی (Liquid) پر ہی جیتا ہے اپنی ماں کے دودھ پر، یا بول کے دودھ پر ہی رہتا ہے، اس کا کھانا پینا بعد میں شروع ہوتا ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام دیکھو کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے ابھی اسکا قوت ہا ضمہ (Dging)

Power) اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے اور اسکا کلیج بھی چھوٹا ہوتا ہے اسکے اندر کا معدہ بھی چھوٹا اور اسکی ساری کمیزی ایک دمچھوٹی ہوتی ہے۔

بچپن میں دانت کیوں نہیں ہوتے؟

اسی لئے اللہ تعالیٰ انسان کو بچپن میں دانت دیتے ہی نہیں کہ ابھی دانت دیں گے تو ایسی غذا میں بھی چبا جائیگا جس کو اسکی قوت ہاضمہ برداشت نہیں کر پائیگی اور ویسے بھی آج کل کی ماں میں بچوں کو دودھ پلانا عیب سمجھتی ہیں، پیدا ہوتے ہی بسکٹ کھانا شروع کر دیتی ہیں ان کو سمجھنا چاہئے کہ یہ ہضم نہیں کر پائیگا جب بچہ کی مشین تھوڑی مضبوط ہونے لگتی ہے تو اسکے اعتبار سے اسکو ہلکی ہلکی غذا میں دی جاتی ہیں لیکن اس عمر میں نہیں کھانا چاہئے جب وہ بالکل چھوٹا ہواں لئے کہ ابھی وہ بچہ بھاری غذا برداشت نہیں کر سکتا۔

انسان کو دو دفعہ دانت دینے کی حکمت الہی

اسی لئے دیکھو۔ انسان کو زندگی میں دو دفعہ دانت دیئے جاتے ہیں اور وہ اسکی قوت ہاضمہ کے اعتبار سے دیئے جاتے ہیں، شروع میں اسکو ہلکی ہلکی غذا ہی چبانا ہے لہذا اسکو دانت بھی ہلکے ہی دیئے جاتے ہیں اور جب اسکی عمر ذرا پختہ ہونے لگتی ہے تو اسکو ذرا مضبوط دانت دیئے جاتے ہیں تاکہ وہ اس غذا کو اچھی طرح چبا سکے، جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسروگ رانڈر جو ہوتا ہے سمیں الگ الگ قسم کی چھریاں ہوتی ہیں، اگر سیب کا جوس بنانا ہو تو الگ قسم کی چھری استعمال کی جاتی ہے۔ قیمه بنانا ہو

تو الگ قسم کی چھری استعمال کی جاتی ہے، الغرض جس قسم کا جوں بنانا ہو تو اس قسم کی چھری (کپ) لگائی جاتی ہے اور اگر قیمه بنانا ہو، اور ہم جیوں والی چھری کا استعمال کریں تو ہماری عقل کی اچھی خاصی داد دی جائیگی کہ وہ بڑے عقلمند لوگ ہیں میرے بھائیو! اس صورت میں ہمیں عقلمند نہیں بلکہ باولا کہا جائیگا تو الگ الگ چھریاں ہوتی ہیں کہ بھائی اس فروٹ کے لئے الگ چھری، اور اس فروٹ کے لئے الگ چھری، اور اگر آم کا جیوں (Apple Juice) بنانا ہے تو اسکے لئے الگ چھری اور اگر چیکیو کا جیوں بنانا ہے تو اس کے لئے الگ چھری۔

اور اگر آرٹیچ بنانा ہے تو اسکے لئے الگ چھری، اور اگر گوشت بنانا ہے تو پھر بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کے درمیان کا بھی فرق ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے انسان کے دانت کو بھی اسی طرح دو قسطوں میں بنایا کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ مضبوط غذاوں کو ہضم کر سکے اسلئے اسکے دانت بالکل ملکے چکلے دودھیارے دانت بنائے ہیں تاکہ وہ تھوڑی مضبوط غذاوں کو بھی ہضم کر سکے، اور ایسے دانت جس سے وہ پار لے بسکٹ کو ہضم کر سکے (coconut) بسکٹ اور تھوڑی بہت چاکلیٹ کو چبا کر کھا سکے۔ یہ سب خدا کی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے گوشت اس کی ماں اس کو دیتی ہے لیکن ذرا مسل کر اور بہت زیادہ کوٹ پیس کر دیتی ہے تب جا کروہ تھوڑا تھوڑا کھانے لگتا ہے، اسی لئے تو دواوں میں بھی تقسیم کی جاتی ہے، کہ دوسال سے کم والے بچے (Under two years) کو اتنا (Dose) خواراک دو، پھر اتنا دو، پھر دو سال کا ہو تو (2) آدھا ہو تو اتنا خواراک دو، اور

نوجوان(Adult) کو اتنا دو، یہ سب خدا کی مشنری کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی مشنری بنائی، اور خدا کی مشنری کبھی فیل نہیں ہو سکتی اور نہ کبھی اس کی مشنری میں خرابی آسکتی ہے۔

لباس کا مقصد ستر چھپانا ہے

اور لباس کے دو مقصد قرآن پاک نے بیان کئے ہیں اور اسی میں اسلام کا پورا نظام سمجھ میں آتا ہے کہ کپڑے ہم کیوں پہنتے ہیں؟ اس کو کبھی اسلام بیان کرتا ہے ہم لوگ تو صرف کپڑوں کو زیب و زینت ہی کی چیز سمجھتے ہیں، ہم لوگ کپڑوں کو صرف اپنے بدن کی خوبصورتی کے لئے ہی سمجھتے ہیں قرآن نے لباس کا مقصد بیان کیا کہ یُوَأْرِی سَوْ آتِکُمْ وَرِيشَا، لباس ہم نے اسلئے اتارا ہے تاکہ تمہارا ستر چھپائے۔

چست کپڑے مکروہ تحریکی ہے

اسی لئے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایسے شرط پینٹ پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریکی ہے جس سے آدمی کے بدن کے اعضاء کی رکوع اور سجده میں شکل نظر آتی ہو یا نماز کے علاوہ اوقات میں اعضاء کی شکل نظر آتی ہو، اور چاہے عضو نظر نہ آئے، پارت آف دی بوڈی ڈائریکلی نظر نہ آئے لیکن اگر اسکی شکل سمجھ میں آتی ہو تو ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریکی ہے، ایسی نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں قبل قبول نہیں، سر کا بوجھ تو اتر جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہو گا اس لئے ایسا لباس پہننا چاہیے جس سے ستر چھپ جائے۔

عورت کا چہرہ ستر میں داخل ہے

اور مرد کا ستر الگ ہے اور عورت کا ستر الگ ہے عورت کا ستر چہرے کیسا تھا ہے عورت کا ستر چہرے سمیت پورا بدن ہے صرف اسکی دونوں ہاتھیلیاں اور دونوں پیر ستر میں داخل نہیں ہیں صرف (Foot) پیر عورت کھلا رکھ سکتی ہے۔ چہرہ کھلانہیں رکھ سکتی، ہمارے ان بھائیو کو اپنی یہ غلط فہمی دور کر لینا چاہیئے جو یہ کہتے ہیں کہ عورت کا چہرہ ستر میں داخل نہیں ہے۔ بہت سے پڑھے لکھے حضرات خواہ مخواہ لوگوں کو دھوکہ میں ڈالتے ہیں کہ عورت کا چہرہ ستر میں داخل نہیں، جبکہ قرآن پاک نے صاف فرمایا کہ لا يُيدِينَ زِينَتَهُنَ، یہ قرآن کی دلیل ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ عورتوں کے لئے یہ بات جائز نہیں ہے کہ عورتیں اپنی زینت کھولیں اور انسان میں سب سے زیادہ اثر (Attraction) سب سے زیادہ تاثیر چہرے کے ذریعہ ہوتی ہے، اسکے بعد دوسرے پارٹ کی طرف انسان کی نظر ہوتی ہے، جب اڑکا اڑکی دیکھنے جاتا ہے تو وہ چہرہ کو ہی دیکھتا ہے چہرہ زینت کی چیز ہے چہرہ ہی کو دیکھ کر آدمی کے دل میں کسی کی طرف رغبت ہوتی ہے قرآن نے صاف اعلان کیا کہ: لا يُيدِينَ زِينَتَهُنَ، کہ اپنی زینت کو ظاہرنہ کرو اور چہرہ زینت ہے جیسا کہ آپ نے سن لیا اس لئے چہرہ بھی ستر میں داخل ہے اسی لئے توبال بھی ستر میں داخل ہیں کیونکہ اس کو بھی زینت کی چیز سمجھا جاتا ہے۔

بے پردہ عورت کا انجام

اور بے پردہ عورت پر اللہ اور اسکے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، جو عورت گھر میں

بغیر دوپٹہ کے رہتی ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے تو باہر اگر بغیر دوپٹہ کے نکلے تو پھر کیا
حشر ہو گا بلکہ ابن ماجہ کی روایت میں تو آتا ہے کہ اس گھر سے رزق کی برکت اٹھائی
جاتی ہے جس گھر کی عورتیں گھر کے اندر بغیر دوپٹہ کے رہتی ہیں اپنے بھائی کے سامنے
اپنے شوہر کے سامنے اپنے باپ کے سامنے بغیر دوپٹہ کے رہنا بھی اسلام نے پسند نہیں کیا
جس کی وجہ سے روزی کی برکت اٹھائی جاتی ہے یہ جو ہم برکت کارونا روتے ہیں اسکی
وجہ یہی ہے اور صحیحتہ ہیں کہ پانچ دس روپیہ کے تعویذ سے تھوڑی روزی میں برکت
آجائی ہے اگر ایسے ہی روزی میں برکت آنے لگے تو پھر آدمی کو آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے
محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مزید ٹائم (Over Time) کرنے کی بھی
ضرورت نہیں ہے، دس میں روپیہ کا تعویذ لگا دیا کہ بس کام ہو جانا چاہئے تھا، نہیں
میرے بھائیو، روزی میں اس طرح برکت نہیں ہوتی ہے رزق میں برکت تو اسی طریقہ
سے ہوگی جو قرآن و سنت نے بیان کیا ہے۔

پینٹ کیسا پہنیں؟

میں ہمارے نوجوان بھائیو سے کہوں گا کہ آپ لباس پہنئے ہم لباس سے منع
نہیں کرتے ہیں لیکن ایسا لباس پہنئے جس میں ہمارا ستر برابر ڈھلتا ہو، اور جسم کی شکل
و صورت سمجھ میں نہ آتی ہو، اور نظر نہ آتی ہو، خاص طور پر پینٹ کا مسئلہ ہے پینٹ آپ
پہنئے، لیکن فٹ پینٹ مت پہنئے، اور اسی طرح ٹخنوں کے نیچے پہنا جاتا ہے تو وہ بھی
درست نہیں ہے، ارے دنیا میں کون کس کو عزت کے ساتھ دیکھتا ہے کہ اس نے ٹخنوں کے
نیچے پا جامہ پہنا ہے، میری سمجھ میں یہ بات آج تک نہیں آئی جبکہ میری عمر ۲۰ سال کی ہو

رہی ہے، لیکن میں اب تک اس نتیجہ پر نہیں پہنچ سکا کہ دنیا میں فیشن کیوں نکالے گئے؟ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننے کو مکال کیوں سمجھا جاتا ہے یہی میری سمجھ میں نہیں آتا۔

عزت صرف اللہ کے دین، ہی میں ہے

میرے بھائیو۔ عزت اگر کمانی ہے تو سنت نبوی ﷺ میں عزت ہے، میں تو بہت دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اگر دشمنانِ اسلام کے دل میں اپنا رب ڈالنا چاہتے ہیں تو سنت والے لباس کے ذریعہ ڈال سکتے ہیں اس لئے کہ قرآن پاک نے بہت پہلے اعلان کیا تھا کہ، **لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ** کہ عزت اگر کسی کے لئے ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ کے رسول کیلئے اور مومنین کے لئے ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکامات پر عمل کرے۔

باپر دہ خاتون کی عزت ہوتی ہے

سنت کے لباس میں اللہ تعالیٰ نے رعب رکھا ہے، سنت کے لباس میں اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے اور سنتوں کو اختیار کرنے والے کی اسلام کے دشمن بھی عزت کرتے ہیں، اگر برقدہ والی عورت کسی جگہ پر آئے تو الحمد للہ ابھی بھی لوگ عزت کرتے ہیں اسکو چھیڑنے کی کوئی ہمت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات رکھی ہے، اور جو عورت ایک دم فری ہو کر چلتی پھرتی ہے لوگ پہلے اسکے اوپر پتھر مارتے ہیں کہ یہاں تیرنشانے پر لگ سکتا ہے، لیکن برقدہ والی عورت ہو تو اللہ اسکی حفاظت فرماتے ہیں میں آپکو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی عورت نے برقدہ پہن رکھا ہو، اس نے حجاب پہنا ہو گا اس نے سنت کے مطابق اپنی چال ڈھال اور نگاہیں رکھی ہو گئی تو شیطان بھی شرما تا

ہے، کہ نہیں یا ریہاں اپنا کام نہیں چل سکتا۔ لوگ اسکو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں میرے بھائیو! اگر دنیا و آخرت میں یقینی عزت کمانی ہے تو اسلامی نظام کو اپنا ہوگا اپنے گھروں میں بھی اپنی زندگیوں میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یو اری سو اتیکم، کہ ہم نے لباس اسلئے اتارا ہے تاکہ تمہارا استڑھک سکے۔

لباس کا دوسرا مقصد زینت ہے

اور لباس کا دوسرا مقصد قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ یہ لباس تمہاری زینت کی چیز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نہیں کہتا کہ تم لباس کے ذریعہ صرف ستر ڈھانکو، لباس کیسا بھی نہیں پہننا چاہیے بلکہ ذرا اٹھک ٹھاک لگانا چاہئے۔

نماز کے لئے صاف ستھرے ہو کر جائیں

اسی روایت کے اندر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ، خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ کہ جب تم نماز کے لئے جاؤ تو ذرا چھے کپڑے پہن کر جاؤ۔ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ لوگ بیوقوفی کرتے ہیں کہ نائب ڈریس میں مسجد میں آتے ہیں نائب ڈریس میں کسی کے چیزیں میں جائیں، ذرا میلی کچیلی لگی لیکر کسی کے پاس جائیں، تب تو آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے آدمی وہاں یہ سب چیزوں کو ناپسند کرتا ہے اسی طرح میرے بھائیو، صاحب شرح و قایہ نے یہ جزئیہ لکھا ہے کہ ثیاب پذلہ میں نماز پڑھنے کے لئے جانا مکروہ ہے، اور یہ ٹوپی بھی جو نماز میں پہنی جاتی ہے وہ ادب اور وقار کے لئے ہے، آدمی کسی بڑے کے یہاں اس طرح جاتا ہے کہ لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی کچھ ہے، غیر مسلم بھی سمجھتے ہیں ہم نے دیکھا کہ غیر مسلم جب کسی کے جنازہ

میں حاضر ہوتے ہیں یا کسی مسجد میں حاضر ہوتے ہیں تو کچھ نہیں ملاتو کم از کم وہ رومال
باندھ لیتے ہیں، بیوقوف ہیں وہ لوگ جو خواہ مخواہ کے لئے خیال آرائی کرتے ہیں کہ
نماز میں ٹوپی پہننا ضروری نہیں ہے، ارے ضروری نہیں تو گناہ بھی تو نہیں ہے جب
گناہ نہیں ہے تو پھر اس کے پیچھے اتنی زیادہ مغزماری کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں
مان لینا چاہئے۔

نبی کریم ﷺ نے بغیر ٹوپی کے نماز نہیں پڑھی

اور ٹوپی پہنکر نماز پڑھنا جناب نبی اکرم ﷺ سے ثابت ہے ایک طرف
اہل حدیث ہونے کا دعویٰ اور دوسری طرف حدیث کی مخالفت، ایک دفع بھی کوئی
ثابت کر کے بتائے کہ حضور اکرم ﷺ اور خلافاء راشدین نے بغیر عمائد اور بغیر
ٹوپی کے نماز پڑھی ہو، پھر اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کہاں سے کرتے ہو؟ تو میں یہ
عرض کر رہا تھا کہ آدنی جب نماز کے اندر آئے تو ذرا ٹھیک ٹھاک ہو کر آئے اسلئے کہ
افسروں کے افسر اور پوری دنیا کے جتنے بھی حاکمین ہیں ان سب کے حکم الحاکمین کے
سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے تو ذرا ٹھیک ٹھاک ہو کر کھڑا ہو، اللہ رب العزت ہم لوگوں کو
قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کتاب و سنت میں جو
ہدایات ارشاد فرمائی ہیں اسکو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین

وَصَلِّ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَلْهَ وَاصْحَابِهِ اجْمَعِينَ

وَآخِرَ دُعَوَانَا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بسم الله الرحمن الرحيم

اقتباس

حضرور ﷺ سے جب پوچھا گیا کہ، اُئی صَدَقَةٍ
اَفَضَلُّ، سب سے بہترین صدقہ کونسا ہے؟ تو حضرور ﷺ نے فرمایا کہ، اَن تَصَدِّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْخٌ تَّا
مَلُّ الْغِنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ، بڑی عجیب و غریب بلا غلط پر مشتمل روایت ہے حضرور ﷺ نے فرمایا کہ تم ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرو کہ تم صحت مند بھی ہو تندرست بھی ہو، ابھی تمہاری عمر کے باقی رہنے کے امکانا ت بھی ہیں تمہیں اپنی عمر کچھ لمبی نظر آ رہی ہے مال کی تمہیں ضرورت بھی ہے اور مالداری کی امید بھی، ایسے موقع پر خرچ کرنا چاہئے، اور جو صدقہ ایسے موقع پر خرچ کیا جاتا ہے، وہ سب سے افضل ہوتا ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

دنیا بقدر ضرورت ہوئی چاہئے

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبی بعده وعلى الـ
واصحابـ الـذـین اـوـفـوا عـهـدـهـ اـمـاـ بـعـدـ

رنگ ٹون پر اذان وغیرہ رکھنا

بھائیو بزرگوار دوستو۔

یہ فتوی شائع ہوا ہے ہم سب لوگوں کو دھیان سے سن لینا چاہئے کہ موبائل کی رنگ ٹون میں اذان، قراءت، نعمت، یا اسلام کی آوازوں کا سیٹ کرنا مکروہ تحریکی ہے اس لیے کہ یہ سب شعائر اسلامیہ ہیں اسلام کی پہچان ہیں، اور یہ رنگ ٹون آدمی کے وقت گزاری کیلئے یا تفریحی سامان کیلئے ہوتی ہیں کبھی استخاء خانہ میں نج جاتی ہے کبھی آدمی برہنہ یا کسی خاص شکل میں ہوتا ہے یا کسی خاص صورت میں ہوتا ہے اور یہ رنگ ٹون نج جاتا ہے اس لئے مفتیان کرام کا فیصلہ ہے کہ موبائل کی رنگ ٹون میں اس قسم کی آوازوں کو سیٹ کرنا مکروہ تحریکی ہے اور جہاں تک نماز میں موبائل کی رنگ ٹون

بچنے کا مسئلہ ہے وہ تو بہت ہی زیادہ شرم کی بات ہے اسلئے ذراللہ کے بندوں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے نماز میں اللہ ہی کی طرف رجوع ہونا چاہیے، ہم کو نے اتنے بڑے بُرنس میں ہو گئے ہمارا ایسا کونسا کروڑوں روپیوں کا ٹرن آور ہو رہا ہے کہ ہم نماز میں بھی موبائل چالو رکھتے ہیں جبکہ کمپنی نے خود اسیں سائلنیٹ (silent) پر رکھنے کا بھی انتظام کیا ہے اور اگر آدمی کروڑوں کا بُرنس کرے تو بھی اس کو اجازت نہیں ہے انسان جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو تو اسکو اپنی ہر ضرورت ایک طرف رکھ کر صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہو کر کھڑا ہونا چاہیے، اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی کامیابی اور فلاح کو خشوع پر موقوف کیا ہے ارشاد ہے، **الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاسِعُونَ**، جو لوگ نماز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں ایسے ہی مومن کامیاب ہوتے ہیں، یہ ایک مسئلہ تھا جس کو میں نے ذکر کر دیا۔

موباکل میں گانا وغیرہ سیٹ کرنا

اور اسی طریقہ سے دوسرا ایک مسئلہ جو موبائل کے ذیل میں یاد آ رہا ہے کہ بہت سے نوجوان حضرات اپنے موبائل میں ایک پاؤنڈ اور پانچ پاؤنڈ کی مقدار دیکر کچھ گانے اور کچھ میوزک کی آواز سیٹ کرواتے ہیں یہ حرام ہے مکروہ تحریکی سے بڑھ کر آگے ہم کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے اور اسی طریقہ سے حضرت مفتی حبیب الرحمن صاحب اور مفتی محمد فاروق صاحب میرٹھی جو حضرت اقدس مفتی محمود صاحبؒ کے خلیفہ اجل ہیں انہوں نے لکھا ہے اور ان کا یہ فتوی نشر بھی ہوا ہے کہ جو لوگ موبائل میں گانے وغیرہ سیٹ کرواتے ہیں وہ ڈبل گناہ کے مستحق ہیں گانا سیٹ کرنا تو گناہ ہے ہی، لیکن

محجور ہو کر فون لگانے والے کو سننا ہی پڑیا اب یہ تو ڈبل گناہ ہو گیا اور قرآن مجید میں سورہ عنكبوت کی ایک آیت کہہ رہی ہے، **لَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا لَمْ يَ
أَثْقَالِهِمْ**: کہ ایسے لوگ اپنے بھی گناہ کا بوجھ اٹھائیں گے اور اور دوسروں کو جو گناہ پر
محجور کیا ہے اسکا بھی بوجھ اٹھائیں گے، اسلام اللہ کے بندوں ہمیں اس طرف بھی غور کرنا
ہے یہ جتنی تکنا لو جی نکل رہی ہے آپ اسکا جتنا بھی استعمال کریں اس سے ممانعت نہیں
ہے، لیکن حَسَنَةٌ حَسَنٌ وَقَبِيْحَةٌ قَبِيْحٌ، اس کے جو فائدے ہیں فائدے ہی ہیں
اور اسکے جو نقصانات ہیں نقصانات ہیں انٹرنیٹ کے استعمال میں بھی آدمی کو اپنے اوپر
کنٹرول کرنا چاہیے یہ چند باتیں تھیں جو میں نے ذکر کر دی۔

عواليٰ پر آپ ﷺ کا گزر

اب ہم حدیث پاک کو پڑھتے ہیں سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی
کریم ﷺ کا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَسْكَنِ
فَإِفْلَامِ مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ، مدینہ منورہ میں عواليٰ نام کا ایک علاقہ ہے آج کل آدمی
بیچ سے اوپر چلا جائے اس طرف کا جو علاقہ ہے اسکو عواليٰ کہا جاتا ہے، وہاں حضرت
ابو بکرؓ کا مکان بھی تھا حضرت عمرؓ کے بھی بعض مکانات تھے، حضور ﷺ اپنے صحابہ
کی زیارت کے لئے انکی ملاقات کیلئے کبھی مدینہ کے گرد نواح میں کبھی اصلاح ذات
البین کے لئے وقبیلوں کے درمیان انکی ملاقات کیلے یا خاندان میں اگر کچھ پھوٹ
پھاٹ ہوتا سیمیں صالح کروانے کے لئے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ
اللہ کے رسول ﷺ عواليٰ کی طرف سے تشریف لارہے تھے، ایک بازار کا ہوا تھا اس

کے پاس سے آپ ﷺ کا گزر ہوا، اور آپ ﷺ کے چاروں طرف صحابہ کرام کی جماعت تھی حضور پاک ﷺ نے بازار کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک بکری کے چھوٹے مردار بچہ کو دیکھا، مرے ہوئے بکری کے بچہ کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ اسکو کوئی ہاتھ لگانے کیلئے بھی تیار نہیں ہوتا، یہاں پر میونسل کار پوریشن والوں کو ہی سب کام کرنا پڑتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اسکو جلدی یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ۔

مردار بکری سے ایک سبق

حضور اکرم ﷺ کی عادت تھی کہ ہر موقع کو غنیمت سمجھ کر صحابہ کرامؓ کو کسی نہ کسی موقع پر سبق دینے کی کوشش فرماتے تھے، آپ ﷺ جیسے زبان سے نصیحت فرماتے تھے، ویسے ہی آپ ﷺ کوئی ایسا موقع جانے نہ دیتے تھتھا کہ حسی اور عملی مشق کے طور پر صحابہ کرامؓ کو کوئی سبق مل جائے، تو آپ ﷺ اسکو بہت اچھا موقع سمجھتے تھے، حضور اکرم ﷺ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا کہ بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے، فتنَّا وَلَهُ حضور ﷺ نے بکری کے اس بچہ کو ہاتھ میں لیا اور اسکے کان کو پکڑا، اور پھر اپنے صحابہ کرامؓ سے آپ ﷺ نے فرمایا، ایُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ هَذَا لَهُ بِدَرْهَمٍ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ بکری کا یہ مردار بچہ ایک درہم میں خریدے، ایک درہم کیا حیثیت رکھتا ہے؟ بارہ پندرہ روپیہ، اور اس زمانہ میں خالص چاندی کا ہوتا تھا تو آج کے اعتبار سے چھاس روپیہ سمجھ لیجئے، پھیس چھاس روپیہ کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ کوئی اس بکری کے بچہ کو ایک درہم کے کے بدلہ خریدے گا؟

صحابہ کرام کا عقلم ندانہ جواب

صحابہ کرام نے اس بات کا صاف جواب دیا کہ ایک درہم تو کیا اگر مفت میں بھی ملے تو بھی ہم اس کا کیا کریں؟ اس کو ہم اپنے گھر پر لیجا کر کیا کریں گے اس میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ما نِحْبُّ اللَّهَ لَنَا بِشَيْءٍ، ہمیں تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ وہ ہمیں مفت ملے، ما نَصْنَعُ بِهِ ہم اس کا کیا کریں یا ایک کوڑی کے بدله میں مل جائے ہمیں تو یہ بھی پسند نہیں ہے، حضور ﷺ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے آپ ﷺ جو جواب سننا چاہتے تھے اور اس جواب کو سن کر جو تربیت فرمانا چاہتے تھے اس میں حضور ﷺ کامیاب ہو گئے۔

حضور ﷺ نے فرمایا کہ، أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ وہ تمہیں مل جائے صحابہ کرام نے فرمایا کہ، لَوْ كَانَ حَيَاً كَانَ فِيهِ عَيْنًا لَا نَهُ أَشَقُّ، صحابہ کرامؓ نے بڑا اچھا جواب دیا کہ اگر وہ زندہ بھی ہوتا تو بھی ہم اس کو نہ لیتے، اس لئے کہ اس میں عیب ہے ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، جس کا ان کثا ہوا ہو، جس کی کہ آنکھ پھوٹی ہوئی ہو، جس کے عضو میں کوئی عیب ہو، اس لئے کہ قربانی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک نذر انہے، اور تحفہ میں ہم ایک دوسرے کو ایسا عیب دار تحفہ دینا پسند نہیں کرتے ہیں کہ عیب دار تحفہ کسی کو دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا تحفہ کیسے پیش کیا جاسکتا ہے۔

آپ ﷺ کی تربیت

حضور پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کون اس مردار بکری کے بچہ کو لے گا، صحابہ کرام نے فرمایا کہ اگر وہ زندہ بھی ہوتا تو بھی ہمارے کام کا نہ تھا، لَأَنَّهُ أَشَقُّ، اس لئے کہ اس کے توانات کٹے ہوئے ہیں اس میں تو عیب ہے اور پھر یہ مربجھی گیا ہے اس میں ہم کو کیا رغبت ہو سکتی ہے؟ حضور ﷺ بڑا اچھا جملہ ارشاد فرمایا اصل مقصد کو بیان فرمایا کہ، وَاللَّهِ لَلَّدُنْيَا أَهُوَنُ عَلَيْهِ مِنْ هَذَا عَلَيْهِ، جیسے یہ مردہ بکری کا بچہ جس کے کان کٹے ہوئے ہیں اس کی کوئی حیثیت تمہارے نزد دیک نہیں ہے، جیسے وہ بے قیمت بے حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کے نزد دیک دنیا کی قیمت اس سے بھی کمتر ہے، دنیا اس سے بھی زیادہ گئی گزری ہے۔

حدیث کے شارحین نے لکھا ہے کہ بکری کے مردہ بچہ کا تو کم از کم چجز ابھی کام آسکتا ہے اس کے چجزے کو اتارا جائے اس کو دباغت دی جائے تو وہ کام کا ہے بکری مرگی اس لئے وہ حرام ہو گئی لیکن حلال جانوروں کے مرنے سے ان کی جلد حرام نہیں ہوتی، حلال جانور کی بات کر ہا ہوں۔ حرام جانور تو نجس العین ہیں وہ چاہے زندہ ہو یا مردہ، ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے مثلا خنزیر، سور، اور اسی طریقہ سے کتنے کو اگر کوئی ہزاروں پاؤ نڈ کا صابن بھی لیکر صاف کرے تب بھی وہ پاک ہونے والے نہیں ہیں ہماری بات تو حلال جانور کے تعلق سے ہے۔

دنیا بکری سے بھی کمتر ہے

بہر حال حضور پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بکری کے بچہ کی تو ایک آدھ آنہ بھی تو قیمت آسکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قیمت اس سے بھی کمتر ہے، بلکہ کوئی قیمت نہیں ہے، اس لئے ایک روایت میں حضور ﷺ نے فرمایا جو آپ نے بکثرت سنی ہوگی، لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَزَنُّ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعْوَضَةٍ لِمَا سَقَى الْكَافِرُ مِنْهَا شُرَبَةً مَاءً، کہ اگر دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ دیتے، مومنین کے لئے (Reserve) خاص رکھتے دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو عام کر کے رکھا ہے دشمنوں کو بھی کھلا تا ہے اور اپنوں کو بھی کھلا تا ہے اور اس روایت سے ہمارے ذہنوں میں ایک بات آنی چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صحابہ کرامؓ کو بھی جزاۓ خیر نصیب فرمائے کہ انہوں نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لئے حضور ﷺ کی روایات نقل کر کے بتانا چاہا کہ دنیا ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، اور حضور ﷺ نے صحابہ کرام کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور قرآن مجید نے بھی مکمل اس بات کی کوشش فرمائی ہے کہ صحابہ کرام کا معمولی میلان بھی مال کی طرف نہ ہو۔

شریعت میں عقل انسانی کو خل نہیں ہے

جس کو شریعت نے ناپاک اور حرام قرار دیا تو وہ ناپاک اور نجس ہے، ہمارے بہت سے مسلمان جو ذرا مورڈن خیال رکھتے ہیں حضرت مولانا تقی صاحب دامت

برکا تم نے نقل فرمایا کہ کچھ لوگوں کو شرعی احکام پر اعتراض ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سور (خزیر) کو تو فارم میں پیدا کیا جاتا ہے بڑا کیا جاتا ہے وہ تو نجاست کچھ کھاتے بھی نہیں ہیں اس لئے یہ حرام نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیو! ہم اس طرح عقلی گھوڑے نہ دوڑائیں۔ میں نے کل پرسوں یہ بات کہی تھی مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم کا غلام ہوتا ہے یہ تو حکمتیں ہیں اصل علت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔

دیکھئے۔ ٹرا فک لائٹ پر سگنل لگا ہو، اور رات کا ایک بجا ہو، چاروں طرف سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہو، لیکن اگر ٹرا فک لائٹ ہے اور آپ نے اس کو پار کر دیا آپ پار کر گئے تو آپ مجرم ثابت ہو گئے اسوقت اگر آپ یہ کہیں کہ اکسٹرنٹ کا کوئی خطرہ نہیں تھا کوئی گاڑی وغیرہ نہیں آ رہی تھی اس لئے میں نے سگنل پار کر لیا تو یہ بات ٹرا فک اصول کے خلاف ہے، اس لئے کہ آپ حکم کے پابند ہیں شریعت نے حکم دیدیا کہ یہ چیز حرام ہے تو وہ حرام ہی ہے، چاہے اس میں کوئی نقصان ہماری قلت عقل کی بنا پر نظر نہ آتا ہو، لیکن شریعت نے ہمارے تمام فائدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ناجائز کہا ہے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔

محبوب چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرو

اسی لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی چیز قربان کرنی چاہیے جو انسان کو محبوب ہو، جو ذرا اچھی ہو، قرآن مجید نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے ارشاد ہے کہ وَلَا تَيَمِّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاَخِدِيْهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوْا فِيهِ، یہاں ایک اور

تربیت فرمائی کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کوئی کھانا کسی کو دیتا ہے یا کسی کو لباس دیتا ہے جب بھی کوئی چیز دے تو ایسی چیز دے جو اس کے کام آئے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ، **لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ**، اس آیت کے تحت ہمارے متصوفہ حضرات نے لکھا ہے کہ اعلیٰ درجہ کا انفاق یہ ہے کہ آدمی اپنی محظوظ کو چیز کو خرچ کرے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے حضرات کام نہ آنے والی چیزوں کو صدقہ دیتے ہیں اور عقیدہ بھی رکھتے ہیں اس کو صدقہ میں دینا چاہیے حالانکہ وہ نہ تو صدقہ دینے والے کے کام آتی ہے اور نہ محتاج اور سائل کے کام آتی ہے۔

واقعہ

اور اس کے ذیل میں مشتمی جلالین نے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز بازار میں نکلتے تھے، اور شکر خرید کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے کچھ لوگوں نے پوچھ لیا کہ عمر بن عبد العزیز آپ شکر خرید کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیوں قربان کرتے ہیں فرمایا کہ، **لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ**، اور مجھے شکر بہت اچھی لگتی ہے، شکر میری مرغوب چیز ہے شکر میں مجھ کو ذائقہ ملتا ہے اور میں نے اپنے رب کو یہ فرماتے ہوئے سنائے کہ **لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ**، کہ آدمی اپنی محظوظ کرے تو اس کو اعلیٰ درجہ کی نیکی ملتی ہے میں اس آیت کے ظاہر پر عمل کر رہا ہوں، یہ ہے ہمارے اسلاف کا عمل، ہم بھی ان کی اس سنت پر عمل کرنے والے بنیں۔

بہرحال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدمی ایسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے کسی

غیریب، کسی فقیر، یا کسی محتاج، یا کسی دوست کو ایسی چیز نہ دے کہ اب گھر میں اس کی ضرورت نہیں ہے اس لئے اس کو دے رہا ہے، یہ تو مجبوری کا خرچ کرنا ہے، جیسا کہ مقولہ مشہور ہے کہ، مری مرغی اللہ کے نام، تو یہ کوئی صدقہ نہیں ہے صدقہ تو یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو اپنے لئے پسند کرے اور جس چیز سے اسے محبت ہو، چاہے وہ قربانی ہو، یا صدقہ کی کوئی اور قسم ہو، اس میں وہی محبوب شیء اور وہی پیاری چیز صدقہ میں دیں۔

افضل صدقة

اسی لئے تو حدیث پاک میں حضور ﷺ نے فرمایا جب پوچھا گیا کہ، اُمّ صَدَقَةٍ أَفْضَلُ، سب سے بہترین صدقہ کونسا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ، أَنْ تَصَدِّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَأْمُلُ الْغُنْيَ وَتَخْشَى الْفَقَرَ، بڑی عجیب و غریب بلاغت پر مشتمل روایت ہے حضور ﷺ نے فرمایا کہ تم ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرو کہ تم صحت مند بھی ہو تو درست بھی ہو، ابھی تمہاری عمر کے باقی رہنے کے امکانات بھی ہیں تمہیں اپنی عمر کچھ لمبی نظر آ رہی ہے مال کی تمہیں ضرورت بھی ہے اور مالداری کی امید بھی، ایسے موقع پر خرچ کرنا چاہیے، اور جو صدقہ ایسے موقع پر خرچ کیا جاتا ہے وہ افضل ہوتا ہے۔

سکرات کے وقت کا صدقہ قبول نہیں

اب اگر کسی نے جان لیا کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے اور وہ لوگوں کو صدقہ دے یا یہ پیش کرے، تو ایسے موقع پر تو اسلام بھی اس کے مال پر بریک لگا دیتا ہے، اور کسی بھی راہ میں اس کو وصیت کی بھی گنجائش نہیں رہتی ہے، بلکہ ایک ثلث (One Third) سے زیادہ اگر اس نے وصیت کی ہے، تو اسلام اس وصیت کو لغو قرار دیتا ہے، ایک ثلث تک وصیت کی حد ہے، چاہے مدرسہ کے کے لئے ہو، چاہے مسجد کے لئے دیا ہو، اس لئے کہ آدمی کی سکرات شروع ہونے کے بعد اس مال کے ساتھ اس کے ورثاء کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، قدرے تعلق مرنے والے کا ہوتا ہے جو موت کے قریب ہوتا ہے اس کا اختیار اس مال میں (One Third) رہتا ہے اس کو اتنا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ایک ثلث مال میں وصیت کرے۔ مثلاً اگر ایک ہزار کا وہ مرتے وقت مالک ہے تو صرف اس کے تھائی حصہ میں جس کی وصیت کرنا چاہے کر سکتا ہے۔

قوانین اسلام میں ہی فوائد ہیں

یہاں لگے ہاتھ ایک بات اور یاد رکھیں۔ علامہ مہماجی جو ہندوستان کے بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، ماہم میں جن کا مزار ہے ہم لوگوں کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہندوستان کی سرزمین نے کیسے کیسے بڑے بڑے علماء پیدا کئے ہیں علامہ مہماجی کی تفسیر اصل عرب کے نزدیک ایک روحانی تفسیر سمجھی جاتی ہے، میں نے اپنے اساتذہ

کرام کو اس کو ایک مستند تفسیر کہتے ہوئے سنائے ہے علامہ مہائی اپنی تفسیر میں باطنی علوم کو نقل فرماتے ہیں خالص باطنی الہامی علوم انکی تفسیر میں نقل کئے گئے ہیں جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں ان کو اور ہم سب کو اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہئے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام نے جتنی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان تمام چیزوں میں میدی یا لکھی اور سائنسی اعتبار سے انسان کی صحت (Health) کے لئے نقصان ہے اسلام نے اس کو دیکھا ہے اسلام نے جتنی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان تمام چیزوں میں اس کی صحت کے لئے نقصان ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ، وہ استدلال کرتے ہیں اس آیت پاک سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو حرام فرماتے ہیں جو خبیث قسم کی ہیں جو ناپاک ہیں اور جن کے کھانے سے انسان کے اخلاق پر اثر پڑتا ہے چاہے وہ چیز ظاہر میں صاف شفاف نظر آتی ہو، اور اس کو تھی ہی پاک جگہ رکھ کر ذبح کیا جاتا ہو، اور کھایا جاتا ہو، لیکن اس کے گوشت میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے اخلاق پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ جیسے خنزیر کو کتنا ہی پاک صاف کر کے کھایا جائے، لیکن اس کے گوشت میں بے غیرتی ہے اس کے خون میں بے حیائی ہے اس کے خون میں بے شرمنی ہے اور اس کا گوشت کھانے والے پر اثر کرتا ہے بلکہ جلد کا اثر بھی کھانے والوں پر پڑتا ہے جیسا کہ صحبت کا اثر انسان کی ذات پر پڑتا ہے!

اشیاء کا اثر انسان کی ذات پر پڑتا ہے

شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدفنیؒ کا معمول تھا کہ وہ

بخاری شریف کا درس دینے کے لئے بکری کے چھڑے پر بیٹھا کرتے تھے، اور درس دیا کرتے تھے اور اس کی وجہ اس طرح بیان فرماتے تھے کہ بکری میں تواضع ہے اسی لئے ہر نبی سے بکریاں چرانی گئیں اور نبی کی تربیت کے لئے بکریاں چروائی گئیں اللہ تعالیٰ کا نظام بھی عجیب ہوتا ہے میں نے ہمارے استاذ اور استاذ الاماتہ حضرت مولا نامفتی بیبات صاحب نور اللہ مرقدہ کو بھی ان کے گھر پر دیکھا ہے کہ ان کی مسہری (چار پانی) پر بکری کا چھڑا ہوتا تھا تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی جو لباس پہنتا ہے اسکا اثر اس کے بدن پر اثر انداز ہوتا ہے۔

مردوں کے لئے ریشم کی ممانعت کا حکمتی پہلو

اسی لئے بعض بزرگوں نے ایک حکمت بڑی اچھی لکھی کہ مردوں کے لئے ریشم کا جو کپڑا حرام قرار دیا گیا ہے اس کی وجہ جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہاں اس کی حکمت یہ ہے کہ ریشم کا کپڑا نرم اور نازک ہوتا ہے اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط بنایا ہے، اب اگر مرد اس قسم کے کپڑے پہننے لگے، تو اس کی طبیعت کے اندر رزاکت پیدا ہو گی، اور اس کی صفت اور طبیعت عورتوں جیسی بنے گی، اور قرآن تو منع کرتا ہے، اور مَنْ يُنَشِّئُ فِي الْحِلْيَةِ وَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٌ، مردوں کو جوزیب وزینت اختیار کرنے سے منع کیا گیا، وہ اس لئے کہ زینت شہامت رجال اور مردانگی کے خلاف ہے، اس لئے ہمیں شریعت کے ہر حکم کی حکمت سمجھنی چاہئے شریعت جس چیز کو حلال قرار دیتی ہے اس میں ہمارا جسمانی اور روحانی کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، اور جس کو حرام قرار دیتی ہے اس میں ہمارا روحانی یا جسمانی کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے۔

آپ علیہ السلام بہترین کمانڈر تھے

پاکستان کے ایک ریٹائر جنرل (کمانڈر) ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حدیث دفاع، پڑھنے کے قابل ہے انہوں نے ریٹائر ہونے کے بعد یہ بات لکھی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ تمام غزوہات میں حضور ﷺ نے جوفلڈ نگ سیٹ کی تھی صحابہ کرام کو جو جمایا تھا اس سے ثابت کیا ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ جہاں ایک طرف نبی تھے، وہی دوسری طرف فوج کی کمانڈری کی پوری تعلیم بھی رکھتے تھے اور آپ ﷺ کو پوری مہارت تھی۔ چنانچہ قرآن پاک نے بھی اس جملہ کو نقل کیا ہے وَإذْغَدُوتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوءُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَا عِدَلِلِقَتَالٍ ، کہ آپ مؤمنین کو جمار ہے تھے۔ بہرحال انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول ﷺ ایک کامیاب کپtein بھی تھے اور وہ ہر چیز کے معلم تھے۔

دنیا کی طرف تھوڑا سا میلان بھی برداشت نہیں

اللہ کے رسول ﷺ بہت اچھی طرح جانتے تھے ہمارے لشکر کے سامنے ایک بہت مضبوط اور بہت چالاک خالد بن ولید جیسا کمانڈر ہے، ہو سکتا ہے وہ کہیں سے حملہ کر دے اس لئے تُبُوءُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَا عِدَلِلِقَتَالٍ ، حضور اکرم ﷺ نے بہت اچھا سیٹ اپ (set up) کیا۔ اور پچاس صحابہ کرام کو حضرت عبد اللہ بن جبیرؓ کی سر کردگی میں جبل احمد کے سامنے ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جس کو جبل رماۃ کہا جاتا ہے، اس پر پچاس صحابہ کرام کو سیٹ فرمایا، ایک عبد اللہ بن جبیر بھی تھے، اور ایک عبد اللہ بن زبیرؓ بھی تھے، اور فرمایا کہ تم کو اگر یہ خبر بھی مل جائے کہ ہم کو پرندوں

نے نوچ لیا ہے تب بھی تم میرے حکم سے پہلے اس پہاڑ سے نیچے اترنے کی کوشش مت کرنا حضور ﷺ کی یہ بصیرت تھی آپ ﷺ کی یہ دوراندیشی تھی آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم کو یہ خبر بھی مل جائے کہ ہم کو پرندوں نے نوچ لیا ہے۔

مطلوب یہ ہے کہ شکر ہم کو قیمه بناؤ اے، تب بھی میرے حکم سے پہلے تم اس پہاڑ سے نیچے مت اترنا، لڑائی شروع ہوئی صحابہ کرام لڑنے لگے، اور شروع لڑائی کے اندر تو اسلام کی طرف ہی جنگ کا پاسر رہا، چنانچہ اوپر جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے اس منظر کو دیکھا، وہ یہ سمجھے کہ مسلمان جیت ہی گئے، مال غنیمت کی تقسیم ہو گی، مقصد میں ہم کامیاب ہو ہی گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو بلند فرمایا اس لئے انہوں نے اپنا محاذ چھوڑ دیا۔ امیر نے روکنے کی کوشش بھی کی کہ بھائی اللہ کے رسول ﷺ نے منع فرمایا ہے کہ نیچے نہیں اترنا چاہئے جب تک حضور ﷺ کا حکم نہ ہو، لیکن صحابہ کرام یہ سمجھے کہ جیت ہو گئی اس لئے اب اتر پڑو، اور یہ ان کا اجتہاد تھا انہیں کیا معلوم کہ کس موقع پر کس طریقہ سے دشمنان اسلام حملہ کر سکتے ہیں وہ اتر پڑے مجھے اصل اس واقعہ میں جو کڑی ذکر کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سخت نارِ اُنگکی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ مَنْ كُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمَنْ كُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لئے میں تو تمہاری جماعت کو نمونہ (Ideal) بنانا چاہتا تھا۔ اور وہ بنے بھی، اس طور پر کہ حضور ﷺ کی زبان نے گواہی دی، أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ، میرے سارے کے سارے صحابہ کرام ستاروں کے مانند ہیں، فَبِاَيْهُمْ اِقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، صرف ابو بکر ہی نہیں، صرف عمر نہیں، ایک معمولی درجہ کے صحابی کو بھی

مانو گے انکی تقیید کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے (معمولی ابو بکر کے اعتبار سے ہے ورنہ ہمارے یہاں تو صحابہ کرام کا مقام بہت بلند و بالا ہے) ایک آخر میں اسلام لانے والے صحابی کی زندگی کو بھی تم لے لو گے، تو راستہ کامیابی کے ساتھ پار کر جاؤ گے پھر تم منزلِ مقصود تک پہنچوں گے۔

ہم اہل سنت والجماعت کا یہ فیصلہ ہے کہ صحابہ کرام معیارِ حق ہیں ان کو قیامت تک کی انسانیت کے لئے اللہ تعالیٰ آئدیل بنانا چاہتا تھا تو انکی معمولی درجہ کی ایک شک و شبہ والی زندگی جس کے دیکھنے والے کو یہ نوٹس کرنے کا موقع نہ ملے، اور کوئی دیکھنے والا اور کوئی مستقبل میں آنے والا مورخ اور ہستری کا لکھنے والا کہیں ان کی شان میں گستاخی نہ کر دے اسلئے وہیں پہاڑ پر ہی جنگ کے پاسے کو پلٹ دیا حالانکہ یہ صحابہ کرام دنیا کے مال کی وجہ سے نہیں اترے تھے وہ تو یہ سمجھ کر اترے تھے کہ ہم مقصد میں تو کامیاب ہو گئے۔ لیکن کوئی دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ صحابہ کرام کی جماعت مال غنیمت کی محبت میں محاذ کو چھوڑ کر اتر پڑی اس لئے، **ثُمَّ صَرَفْكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيْكُمْ**، اللہ تعالیٰ نے پورے جنگ کے پاسے کو پلٹ دیا اور وہ ہوا بھی ایسا ہی جس کا حضور اکرم ﷺ کو اندیشہ تھا۔ خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا، اور مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیو! کہ صحابہ کرام کی دنیا کی طرف معمولی بلکہ ادنی درجہ کی نظر تھی اس پر انہیں ڈالنا گیا غزوہ بدرا کے میدان میں بھی جب صحابہ کرام میں سے حضرت ابو بکرؓ نے مشورہ دیا کہ ان لوگوں کو فدیہ دیکر چھوڑ دینا چاہیے اس پر بھی قرآن پاک کی ڈانت اتری تھی، **تَبَتَّعُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ**۔

دنیا بقدر ضرورت ہو

ان سب باتوں سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اسلام نے مکمل کوشش اس بات کی ہے کہ دنیا بقدر ضرورت ہمارے پاس ہو، اپنی ضرورت کے بقدر اگر کوئی آدمی دنیا کما تا ہے تو اس سے کوئی انکار نہیں ہے، بلکہ اسے تو ثواب قرار دیا گیا ہے ایک روایت میں تو اس کو فرض قرار دیا گیا ہے، **كَسْبُ الْحَلَالِ وَ طَلَبُ الْحَلَالِ**، کو فرض قرار دیا گیا ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ ہائے دنیا، ہائے دنیا، کرتے رہنا اور آخرت سے غفلت بر تنا یہ غلط ہے۔ دنیا تو ایک ذریعہ ہے اور مقصد آخرت ہے، **وَلَلَا خِرَّةُ حَيْرٌ لَكَ** مِنَ الْأُولَى

حضرت اس طرح فرمائی گئی تھی کہ ذریعہ بقدر ذریعہ ہو، اور اصل مقصد ہو تو اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حضور ﷺ کا مزاج سمجھنے کی اور صحابہ کرام کے ذریعے سے قیامت تک کی انسانیت کو جو مزاج آپ ﷺ نے پلانا چاہا ہے میں بھی اس میں کامیاب نصیب فرمائے ۔۔۔۔۔ آمین

وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَلِهِ وَالصَّحَابَةِ وَجَمِيعِ

وَآخِرَ دُعَوَانَا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بسم الله الرحمن الرحيم

اقتباس

قرآن مجید کی آیت کریمہ ان صحابہ کی قبولیت کا اعلان
 لیکر نازل ہوئی جنہوں نے سچائی کو اپنا مزاج بنایا تھا، اس سے سچ
 کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسی سچ بولنے کی بنیاد پر ان کی شان
 میں قرآن پاک کی آیت شریفہ نازل ہوئی جو چودہ سو سال میں
 سال پہلے سے پڑھی جا رہی ہے اور قیامت تک پڑھی جاتی رہے
 گی اور جنت میں بھی اس کی تلاوت ہوگی اور ان صحابہ کرام کی
 فضیلت کا حافظ دنیا کا ہر بچہ پچھے ہو گا اور اس کی وہ تلاوت کریگا ان
 صحابہ کرام کی فضیلت کو، ہم اپنی زبان میں پڑھیں،
 لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَمَّا جِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ
 فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ؛ جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ
 تعالیٰ نے تو بے قبول کی مہاجرین اور انصار کی جنہوں نے کہ تنگی کے
 موقع پر بھی نبی ﷺ کی اتباع کی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

غزوہ تبوک، احوال و کوائف

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد ،فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم؛.

وَأَخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَلِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا ، عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .

وقال تعالى، يَا يَهُا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِيقِينَ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الامی الکریم و نحن على ذالک لمن الشاھدین والشاکرین، والحمد لله رب العالمین؟۔

معزز بھائیودوستو، اور بزرگو!

حضور پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زندگی میں ایک عظیم اور بہت مشکل اور کھنک ایک جگ غزوہ تبوک کے نام سے پیش آئی ۹ ھر جب کامہینہ تھا، اللہ کے رسول ﷺ کو خفیہ ایجنسی کے ذریعہ اس بات کی اطلاع موصول ہوئی کہ اٹالی کا امپاری (Empire) ایک بہت بڑے لشکر کو لیکر مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ سخت

ترین فاقہ کا موسم تھا مسلمانوں کی فصلیں اور انکے کھیت بالکل تیار تھے اور بڑے مشکل ایام اور دن گزارنے کے بعد خوش حالی کے ایام آنے کے قریب تھے ایسے موقع پر اچانک دربار رسالت ﷺ سے اعلان ہوا کہ اب تک تو ہم نے اندر ورنی دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے اب ہمیں بہت بڑے بیرونی لشکر کا مقابلہ کرنا ہے بعض موئیین لکھتے ہیں کہ بیس ہزار کا مجمع لیکر روم کا امپاری مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لئے آنے والا تھا، حضور ﷺ نے اپنے صحابہ کو اس کی اطلاع فرمائی کہ ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کے لئے مدینہ سے باہر نکلنا ہے صحابہ کرام رسول اللہ ﷺ کے حکم پر کب پس و پیش کر سکتے تھے فوراً تیار ہو گئے۔

ہوا کے رخ پر چلنے منا فقین کا شیوه ہے

لیکن مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر دور اور ہر سماج میں منافقین کے نام سے ایک جماعت رہا کرتی ہے وہ لوگ آستین کے سانپ ہوتے ہیں آپ کے سامنے آپ کے جیسا اور دشمن کے سامنے دشمن کے جیسے، میرے پاس آئیں گے تو میری تعریف اور میرے مزاج (Favour) کی بات، اور آپ کے پاس آئیں گے تو میری برائی اور آپ کے مزاج کی بات، میرے سامنے میرے مزاج کی اور آپ کے سامنے آپ کے مزاج کی بات کریں تو مضاائقہ کی بات نہیں جو حق پر ہو اس کا ساتھ دیا جائے، لیکن مکاری کے ساتھ ادھر کی بات اُدھر لگانہ منافقین کا شیوه ہے۔

حضور ﷺ کے دور میں بھی وہ جماعت تھی

اللہ کے رسول ﷺ کے دور میں بھی وہ جماعت تھی جو حضور اکرم ﷺ کی

خدمت میں آکر فتنمیں کھاتے تھے، اور اپنے آپ کو حضور اکرم ﷺ کا سچا پاک عاشق بتانے کی کوشش کرتے تھے اور فتنمیں کھاتے تھے کہ، نَسْهَدُ أَنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ اے محمد ﷺ تم اللہ کے رسول ہو، شہادت کا لفظ بولتے تھے کوئی جھوٹا موتا لفظ نہیں بولتے تھے بہرحال جب غزوہ تبوک کے لئے نکلنے کا اعلان ہوا صحابہ کرامؓ نے فوراً تیاری بتائی۔۔۔۔۔

غزوہ تبوک کے وقت منافقین کا بہانہ

منافقین حضور اکرم ﷺ کے پاس آکر بہانے بتانے لگے۔ اور عجیب بات کہی، دیکھو شیطان انسان کو کس طرح بہکتا ہے کبھی کبھی شیطان انسان کو اچھے طریقہ سے بھی بہکتا ہے اور اس کا علم ہمیں اسلاف کے واقعات سے بھی ملتا ہے۔ بہرحال انہوں نے بہانہ بنایا اور کہا کہ روم اور اٹالی کی بڑی طاقت سے لڑنے کے لئے جانے کو آپ کہہ رہے ہیں لیکن انکی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں ہمیں خطرہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ غزوہ میں جائیں گے تو انکی عورتوں کے ساتھ ہم مبتلا ہو جائیں گے اس لئے ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کے ساتھ نہ آئیں ورنہ ہمیں اپنے دین کے بارے میں آزمائش کا سامنا ہو گا۔

آپ ﷺ کو منافقین کا علم تھا

حضور اکرم ﷺ ساری بات سمجھ رہے تھے اس لئے کہ حضور اکرم ﷺ کا تعلق آسمانی نظام سے تھا یہاں ایک سوال پیدا ہونا چاہئے کہ جب حضور اکرم ﷺ کو

معلوم تھا کہ میری جماعت میں اور میرے ساتھ رہنے والوں میں بہت سے منافقین ہیں بلکہ حضرت خذیفۃ ابن الیمان جو حضور اکرم ﷺ کے صحابی ہیں ان کو تو حضور ﷺ کرم ﷺ کا سیکریٹری کہا جاتا تھا صاحب سر رَسُولِ اللہِ ﷺ، تھے، اللہ کے رسول ﷺ کے راز کو جانے والے تھے، حضور ﷺ نے ان کو پوری لست بتادی تھی کہ اپنی جماعت میں جو لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان میں فلاں فلاں نام کا شخص منافق ہے۔

عمر فاروقؓ کا قتل کی اجازت مانگنا

حضرت عمر فاروقؓ کو جب اس کی بھنک لگی تو فرمایا کہ اللہ کے رسول ﷺ مجھے اجازت دیجئے کہ میں منافقوں کا سر اڑا دوں، انکی گردان قلم کر دوں آپ ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے، جب آپ کو معلوم ہے کہ اپنی جماعت میں یہ لوگ بستے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا چونکہ یہ لوگ زبان سے کلمہ کا اقرار کرتے ہیں اور دنیا کی لست میں ان کا نام مسلمان ہے اور میں ان کو قتل کروں گا تو دنیا میں میرا نام بدنام ہو جائیگا کہ محمد ﷺ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو ہی قتل کر دیتا ہے اسلئے میں اپنے دین پر کوئی وحہ لگانا نہیں چاہتا ہوں ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ نہست لیگا۔

چند صحابہ کرام بھی غزوہ میں نہیں جا سکے

منافقین نے حیلے اور بہانے بتلا کر اجازت حاصل کر لی، اور کچھ لوگوں نے اجازت مانگنے کی جرأت بھی نہیں کی کہ جانے دو، ابھی اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے جب حضور ﷺ واپس تشریف لا میں گے تو ہم کوئی دوسرا بہانہ بنالیں گے، اسی

کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، يَعْتَدِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، اور تین صحابہ کرام تھے، جو آج کل آج کل کرتے کرتے رہ گئے انہوں نے سوچا کہ ہم سواری کا انتظام کریں گے اور ہم جلدی سے حضور اکرم ﷺ کے قافلہ کے ساتھ جامیں گے آج نکلیں گے، کل نکلیں گے، پرسوں نکلیں گے، شام کو نکلیں گے اگرچہ کہ اسلامی لشکر روانہ ہو چکا ہے لیکن ہماری سواریاں تیز ہیں، ہم دیر سے نکل کر جلد ان کے پاس پہنچ جائیں گے، لیکن آج کا کام جب کل پڑالا جاتا ہے تو پھر وہ کام رہ جاتا ہے۔

عقلمند آج کا کام کل پر نہیں مالتا ہے

عقلمند آدمی وہ ہوتا ہے جو صحیح کا انتظار نہیں کرتا ہے کہ صحیح سے نماز کی پابندی کریں گے، نہیں بلکہ وہ فوراً شروع کر دیتا ہے اور وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ جانے دواب اتنے رمضان تو چلے گئے اب آئندہ سال روزہ رکھیں گے ہمارے یہاں مدرسوں میں بچے جب نئے سال میں آتے ہیں تو انتظار کرتے ہیں کہ ابھی تو گھر سے آئے ہیں تھوڑی سستی اترنے دو، بقریعہ کے بعد محنت کریں گے، پھر کیا ہوتا ہے شما، ہی امتحان آگیا اب اس طرح کرتے کرتے سال پورا ہو جاتا ہے اور وہ فیل ہو جاتے ہیں ایک تاجر آدمی بھی اس طرح سوچے کہ میں ابھی انڈیا سے آیا ہوں ذرا تھوڑا اسہ آرام کرلوں ایک آدھ مہینہ کے بعد کام شروع کروں گا، تو بیٹھے بیٹھے کون کھلا بیگا اس طرح تورا جا کا راج بھی لٹ جائیگا پرانے لوگ کہا کرتے تھے، کہ کروڑوں سے کمائے تب بھی بیٹھ کر نہیں کھانا چاہیے ایک ہفتہ دو ہفتہ کرتے کرتے تو پورا سال ختم ہو جائے گا انسان اس سے خودست ہو جاتا ہے اور دوبارہ کام پر جانے سے کتراتا ہے۔

نیک کام فوراً شروع کر دیں

اور جو نیک کام دل میں آیا بس اس پر بسم اللہ کرنی چاہیے، گزری ہوئی با توں پر نظر نہیں کرنی چاہیے کہ میں نے اب تک کچھ نہیں کیا اب ذرا اور دیر سے کروں گا، عقلمند آدمی وہ ہوتا ہے جو اس طرح کے نیک کاموں کو بلا کسی تاخیر اور تمہید کے فوراً شروع کر دیتا ہے اور ایک مسلمان کو تعلیم بھی دی گئی ہے کہ جہاں اس کے دل میں کوئی نیکی کا جذبہ پیدا ہو، اللہ کا نام لیکر بسم اللہ کہکشان شروع کر دے۔

جلد بازی بھی نہ کریں

اور ہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر کام میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، اس لئے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ، **الْعُجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالْتَّائِنُ مِنَ الرَّحْمَنِ**، کہ جلد بازی کرنا شیطان کا کام ہے اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا رحمٰن کی جانب سے ہے ایک عجیب بات مجھ کو یاد آ رہی ہے، مفسرین نے بڑا چھانٹتہ ذکر کیا ہے اگر حق تعالیٰ شانہ چاہتے تو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو اور پوری کائنات کو ایک سکنڈ میں پیدا کر سکتے تھے کیوں بھائی کر سکتے تھے کہ نہیں؟ (جی ہاں) اسی لئے تو قرآن مجید میں اعلان فرماتے ہیں، **وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلْمَحٍ بِالْبَصَرِ**، لیکن اس کے باوجود آسمان و زمین کو چھوپن میں پیدا فرمایا اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک آیت کریمہ اور پڑھی گئی، **إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ**، آج بھی بارہویں پارے کے اندر یہ آیت پڑھی گئی کہ **وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى**

الْمَآءِ لِيَبْلُو كُمْ أَئِنَّكُمْ أَخْسَنُ عَمَلاً.. بارہو ایں پارے کے پہلے ہی رکوع میں یہ آیت پڑھی گئی دوسرے نمبر کی آیت ہے۔ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دن میں پیدا فرمایا، تو سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا نام کیوں لگایا اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک سکنڈ میں پیدا فرمادیتے؟ مفسرین نے بالاجماع یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کے ذریعہ دنیا والوں کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ کسی بھی کام کو جلد بازی سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس میں اچھی طرح غور و فکر کرنا چاہیے کہ دیکھو میں نے ایک سکنڈ میں پیدا کرنے پر قادر ہونے کے باوجود چھ دن ان کے پیدا کرنے میں لگائے، جب کہ میں قادر مطلق ہوں تو تمہیں کتنے اطمینان سکون اور غور و فکر کے ساتھ کرنا چاہیے اس آیت میں بتایا کہ ایک دم سے کسی بھی کام میں قدم نہیں رکھدینا چاہیے۔

کسی بھی کام میں پہلے غور و فکر کریں

شادی یا ہلاکت کا موقع ہو یا کوئی بڑی میراث حل کرنی ہو، کوئی بڑا مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے اسیں غور و فکر کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ جلد بازی سے قدم رکھدیا، نہیں میرے بھائیو۔ اس طرح جلد بازی کرنے سے بڑا انقصان ہوتا ہے اسی لئے تو قرآن پاک نے فرمایا کہ وَشَاءُرُهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ پہلے مشورہ کرو پہلے سوچو، اپنے خیر خواہوں سے اللہ والوں سے اور آپ کے ساتھ بھلانی کرنے والوں سے مشورہ کرو، ایک دم سے بسم اللہ نہیں بولنا ہے اسلام یہ بھی سکھاتا ہے۔

نیک کاموں میں مشورہ نہیں ہے

لیکن ایک بات یہ بھی سن لو کہ نیک کے کاموں میں مشورہ نہیں ہے نماز پڑھنی ہے تو اب مشورہ کرنے بیٹھ گئے کہ آپ کا کیا مشورہ ہے نماز پڑھنی ہے یا نہیں؟ اپنے بچہ کو مدرسہ میں رکھنا ہے تو مشورہ کرنے بیٹھ گئے کہ مدرسہ میں رکھنا ہے یا نہیں، بعض لوگوں کو استخارہ کا ایسا نشہ سوار ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ فون بھی کرتے ہیں کہ مولوی صاحب حج کے لئے جانا ہے ذرا استخارہ کر لیجئے۔ آپ حج کو جارہ ہے ہیں اور استخارہ کر رینگے؟ انا لله وانا الیه راجعون، حج میں جانے کے لئے کیا استخارہ،؟ استخارہ تو کہتے ہیں خیر کو طلب کرنا اور حج تو سراپا خیر ہی خیر ہے اس کے لئے کیا استخارہ کریں؟ شادی ایک سنت ہے اس کے لئے کو نسا استخارہ؟ ہاں آپکے سامنے کچھ آپشن (Options) ہیں ان میں سے کسی ایک کو معین کرنے کے لئے استخارہ کیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نیک کاموں کے لئے کوئی استخارہ نہیں ہوتا ہے۔

بہر حال تین صحابہ رہ گئے

جناب نبی کریم ﷺ کے ساتھ اکثر و بیشتر صحابہ تو نکلے لیکن یہ تین صحابہ رہ گئے اور یہ تین صحابی ایسے تھے جو آگے پیچھے تو کرتے رہے لیکن رہ گئے تو رہ گئے نہیں جا سکے مگر سچے تھے صحابہ کرام کی صفت سچے بولنا تھی انکی تربیت سچائی پر ہوئی تھی انہوں نے یہ بات ٹھان لی کہ اللہ کے رسول ﷺ جب مدینہ منورہ واپس آئیں گے تو ہم منافقوں کی طرح جھوٹ بول کر اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے (مجھے غزوہ کی تفصیل

میں نہیں جانا ہے) بظاہر آدمی بھوٹ بولنے میں بچ جاتا ہے لیکن اخروی اعتبار سے وہ بڑے خسارہ میں پڑ جاتا ہے الغرض آپ ﷺ کے تشریف لانے کے بعد تمام لوگ صفوں میں کھڑے ہو گئے۔

اٹالی کا امپارِ بھاگ گیا

جنگ تو ہوئی نہیں، اٹالی کے امپارِ کو جب پتہ چلا کہ حضور ﷺ اپنے لشکر کو لیکر نکلے ہیں تو اس کا پیشاب خطا ہو گیا لشکر ہی چھوڑ کر بھاگ گیا لڑائی کا موقع ہی نہیں آیا اور میرے بھائیو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بندہ پورے طور پر ایمان و اعمال پر جما ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ انسان کی مدد فرماتے ہیں یہ تو اللہ کا وعدہ ہے آج ہمارے اندر ایمان و اعمال کی خرابی ہے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے ۔۔۔ امین۔

حضور ﷺ کو پانچ خصوصیتیں دی گئی تھیں

اور یہ بھی سن لو کہ حضور اکرم ﷺ کو پانچ خصوصیتیں ایسی دی گئی تھیں جو کسی بھی نبی کو حاصل نہیں تھی آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اُغْطِیثُ خَمْسَالَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِيٌّ؛ مجھے پانچ خوبیاں اور پانچ خصوصیتیں ایسی ملی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں ملی، ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ، نُصْرُتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةُ شَهْرٍ، کہ دشمن ایک مہینہ کی مسافت کے بعد ردو رہوتا ہے اور اسکے دل میں میرا عرب ڈال دیا جاتا ہے پھر وہ مجھ سے لڑنے کی ہمت نہیں کرتا۔

ایک سوال اور اس کا جواب

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ﷺ کا تاریخ دیا گیا تھا تو بدر میں پھر دشمن کیوں سامنے آئے؟ احمد میں کیوں سامنے آئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ناک کا بدلہ تھا، ان کی عزت کا مسئلہ تھا۔ اور پیشین گوئی حضور اکرم ﷺ نے پہلے ہی فرمادی تھی کہ هذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ هذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ هذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ کہ یہاں فلاں ہلاک ہو گا یہاں فلاں ہلاک ہو گا اس لئے کہ حضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کا یقین تھا کون کہاں ختم ہو گا جیسا کہ ایک عقلمند کی پیش قرآن کے ذریعہ پتہ لگا کر کہدیتا ہے کہ فلاں کی گیند بازی (over) میں فلاں کی وکٹ ہو گی اور فلاں کی گیند میں فلاں کی وکٹ ہو گی اور فلاں بول کے ہاتھ سے فلاں بیٹھیں کی تقدیر جائیگی اسی طرح اللہ کے رسول ﷺ کو اوپر سے وحی آئی تھی آپ ﷺ نے بدر کے میدان میں جگہیں معین کر دی تھی هذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ هذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ هذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ؛ کہ یہاں ابو جہل لڑک جائیگا، اس لئے کہ آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس بات کا یقین تھا اس کے باوجود وہ لوگ سامنے آئے تو یہ ناک اور بڑائی کا مسئلہ تھا۔

عزت قبول حق سے رکاوٹ بنتی ہے

اور یہ ناک (بڑائی) انسان کو حق بات قبول کرنے سے روکتی ہے آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان جو کہہ رہا ہے، سب سچ ہے لیکن اس ناک کی وجہ سے اس کو قبول

نہیں کر پاتا ہے، چاہے آپ لاکھ کوشش کریں وہ مانے کے لئے تیار نہیں ہو گا اسلئے کہ اس کی ناک کا مسئلہ ہے اور اسی ناک کو مارنے کی اسلام تعلیم دیتا ہے اس لئے کہ اس ناک کو جب تک رگڑا نہیں جائے گا تب تک آدمی کسی کی بات کو مانتا نہیں ہے اور جب ناک (بڑائی) کا مسئلہ ختم ہو جائے گا تو انسان تھوڑا بہت اپنے حق میں کمی کو بھی برداشت کر لے گا۔

سجدہ میں ناک کیوں رگڑوائی؟

اسی لئے بعض فقہاء نے لکھا ہے احوط قول یہ ہے کہ سجدہ میں اگر پیشانی تھوڑی بہت ٹک گئی اور تھوڑی نہیں ٹکی تو چلے گا لیکن ناک اگر سجدہ میں نہیں رگڑی گئی تو سجدہ نہیں ہو گا، اس لئے کہ اصل ناک رگڑوانا مقصود ہے، اسی ناک کی وجہ سے آدمی دنیا کے اندر حق بات کو قبول نہیں کرتا ہے، عرب کے مشرکین اور عرب کے کفار آپ ﷺ کو دل سے سچا مانتے تھے لیکن وہی ناک والی بات تھی آپ ﷺ کے پچھا خواجہ ابوطالب نے کتنا ساتھ دیا ایک موقع پر جس وقت کہ کفار مکہ نے ابوطالب کو چلتی کیا کہ اب اگر آپ کے بھتیجے نے دعوت والے کام کو بند نہیں کیا تو ہم اس کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے تب بھی انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا۔

خواجہ ابوطالب کی آنکھوں میں آنسوں آگئے، انہوں نے حضور اکرم ﷺ کو بلا کر یہ پیش کش کی کہ بھتیجے اپنے کام کو روک دو، مگر آپ ﷺ نے عجیب و غریب جملہ فرمایا تھا جو مجھے اور آپ کو اور دنیا کے ہر انسان کو دعوت والے کام کی اہمیت و افادیت بتلاتا ہے اور ہمیں یہ مبارک کام اپنے سینہ سے لگانا چاہیئے ایک ایسا جملہ فرمایا کہ حضرت مولا نا علی

میاں ندویؒ فرمایا کرتے تھے کہ وہ جملہ ہر مسلمان کے گھر میں لکھا ہوا ہونا چاہیے آپ ﷺ نے فرمایا کہ، لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِينِي وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي إِلَى اِخْرِ قَوْلِهِ ﷺ فرمایا کہ اگر پوری دنیا مل کر میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھدیں اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھدیں اور دنیا کی خوبصورت ترین عورت مجھے دیدی جائے اور دنیا کا پورا خزانہ مجھے دیدیا جائے تب بھی میں کلمہ توحید کی دعوت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔

آج مسلمان ذرا سی قیمت پر بک جاتا ہے

اور مجھے معاف کیجئے گا آج کل اس مسلمان کو ذرا پائچ سو پاؤ ٹڈ کی لائچ دیدی جائے تو مسجد، مدرسہ کی ساری خبریں دشمنوں کو دیدیتا ہے دشمنوں کو اپنے ہی اندر کے لوگ پھوٹنکتے ہیں دو کوڑیوں کی خاطر اچھے اچھے لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں مسلمان اب پیٹ کا ڈھیلا ہو چکا ہے جیب کا بہت زیادہ لاچھی ہو چکا ہے ذرا اسکو تھوڑے سے پیسوں کی لائچ دی جائے بس سب معاملہ ختم ہو گیا۔

صحابہ نے سچی بات کہہ دی

بہر حال جب یہ تین صحابہ کرامؐ پیچھے رہ گئے ہر منافق کو کوئی نہ کوئی بہانہ مل رہا تھا اور ہر منافق کچھ کہہ رہا تھا جب ان تین صحابہ کرامؐ کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ ہم بھی جھوٹ بول کر اپنی جان بچا سکتے ہیں، لیکن صاف بات ہے کوئی عذر نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، محض سستی کی وجہ سے اور ہماری کھیتی اور فصل تیار تھی اسکی طرف ذرا توجہ دینے سے ہم نہیں آ سکے۔ دیکھو یہ

حضرات یہاں سچ بولے اگرچہ کہ یہاں ذرا سی مشقت ہوئی، لیکن یہ تکلیف اور مشقت آسان ہے آخرت کی تکلیف سے، جن لوگوں نے جھوٹ کہا تھا انکی بات تو مان لی گئی کہ جاؤ ٹھیک ہے تم یہ کہہ رہے ہو، جاؤ تم یہ کہہ رہے ہو۔

ان لوگوں نے سچ کہا حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں تمہاری بات کا کوئی جواب نہیں دیتا تم تمہارا کام کرو حضور ﷺ نا راض ہو گئے، اب ایک عام آدمی کہے گا کہ دیکھو سچ کہا تو یہ انجام ہوا، ایمانداری کا زمانہ نہیں ہے، ارے ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ایمانداری کے ساتھ دھندا کرنے میں برکت نہیں ہو گی بے ایمانی کے ساتھ دھندا کرنے میں برکت ہے یہ سراسر غلط ہے، مسلمان آرام سے یہ کہہ دیتا ہے کہ جھوٹ بولنے میں برکت اور سچ بولنے میں نقصان ہے۔ (نعوذ بالله من ذالک) ہم عارضی نفع اور نقصان کا فیصلہ کرتے ہیں ارے بھائی ہمیں تو آخرت کے نفع اور نقصان کو دیکھنا چاہیے۔

تینوں صحابہ کرام کے لئے آپ ﷺ کا اعلان

چنانچہ صحابہ کرام نے صاف فرمادیا کہ ہمارے لئے کوئی عذر نہیں تھا حضور اکرم ﷺ نے خطرناک سزا نائی انہوں نے سچ کہا، لیکن مدینہ شہر میں اعلان ہوا کہ ان لوگوں سے کسی کوبات کرنے کی اجازت نہیں ہے ان لوگوں سے مکمل با بیکاٹ (Sociel baykat) با بیکاٹ کر دو۔ اور ایک موقع تو وہ آیا کہ آپ ﷺ نے انہیں یہ پیغام بھیجا کہ کچھ دنوں کے لئے اپنی بیویوں کو بھی ان کے میکے رو ان کر دو۔ ان کا با بیکاٹ پچاس رات رہا۔

پچاس رات تک بائیکاٹ کی وجہ

ان کی تربیت اس طرح کی کہ پچاس رات تک ان کا بائیکاٹ رہا اور پچاس رات تک ہی کیوں؟ اس کی بڑی اچھی وجہ امام نوویؒ نے لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ غزوہ تبوک کی آمد و رفت سفر اور حضر آنے جانے اور وہاں رہنے کی ٹوٹی مدت پچاس رات تھی۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے میں بہت اچھے پونٹ پر آ رہا ہوں کہ پچاس رات دیگر صحابہ کرامؐ نے حضور اکرم ﷺ کے ساتھ باہر رکھر مشقت برداشت کی قرآن نے اس کو، فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ، کے الفاظ سے تعبیر کیا کہ غزوہ تبوک کے جانے میں اور وہاں رہنے میں اور واپس آنے میں کل ملا کر پچاس راتیں لگی تھیں جسمیں ان صحابہ کرام کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا یہ تین صحابہ کرام جو نہیں گئے تھے انہوں نے مدینہ میں آرام کیا تھا اب ان کو پچاس راتوں تک مشقتوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہے۔ کیا گیا تھا تاکہ (Equality) برابری ہو جائے۔

ان حضرات کے لئے زمین تنگ ہو چکی تھی

یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ہمارے لئے بڑا عجیب حال تھا اس بات کی قرآن پاک نے خود گواہی دی کہ، ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ، ان کو ایسا لگتا تھا کہ زمین ہمارے قدموں کے نیچے سے کھک گئی، خطرناک حالات تھے، گھروالے الگ ہیں اور کوئی بول نہیں رہا ہے، اور حضور اکرم ﷺ ان کو نہ دیکھ رہے ہوں، جبکہ وہ آپ ﷺ کی ایک ایک نظر کوترستے تھے، انکے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے، تو ان پر کیسی گزرتی ہو گی، ایک عقلمند شاگرد یا ایک مرید محبوب کو اپنے استاذ اور شیخ کامل سے

کامل درجہ کا عشق ہوتا ہے اگر وہ ایک مجلس میں بھی اپنے آپ کو شیخ کی نظر سے محروم پاتا ہے تو پھر اس کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے، کہ میرے شیخ نے میری طرف نظر نہیں کی میرے استاذ نے مجھ کو دیکھا نہیں اور جب کہ وہاں حضور اکرم ﷺ اور صحابہ کرامؓ کا معاملہ ہے، بہت انتظار میں تھے کہ پچاس راتیں گزر گئیں۔

سچ بولنے کا انعام

چنانچہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ان لوگوں کی قبولیت کا اعلان لیکر نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی اب تم مدینہ کے لوگوں سے بات کر سکتے ہو۔ دیکھو میرے بھائیو!! سچ بولنے کی کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اسی سچ بولنے کی بنیاد پر ان کی شان میں قرآن پاک کی آیت شریفہ نازل ہوئی جو چودہ سو سال کیس سال پہلے سے پڑھی جا رہی ہے اور قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی اور جنت میں بھی اس کی تلاوت ہوگی اور ان صحابہ کرام کی فضیلت کا حافظ دنیا کا بچہ بچہ ہوگا اس کی وہ تلاوت کریگا ان صحابہ کرام کی فضیلت کو ہم اپنی زبان میں پڑھیں،،**لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَمَّا جِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ** جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی مہاجرین اور انصار کی جنہوں نے تنگی کے موقع پر بھی نبی ﷺ کی ایتاء کی۔

تینوں صحابہ کا تذکرہ خاص طور پر فرمایا

یہ تو تمام صحابہ کرام کا تذکرہ ہے لیکن ان تینوں حضرات کے تذکرہ کو الگ سے بیان فرمایا کہ **وَعَلَى الشَّالِثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا** ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان نازل ہوا

کہ ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کی توبہ کیا کی تھی؟ ان کی توبہ یہی تھی کہ انہوں نے سچ کہا تھا اقرار کیا تھا اور اسی کا نام تو توبہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا بس بات یہ تھی کہ ہم آگے پیچپے کرتے رہے اور آپ کے ساتھ نہیں آسکے اسی کا نام توبہ ہے۔

دل کی شرمندگی کا نام ہی توبہ ہے

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کی روایت میں آتا ہے کہ شرمندگی اور دل کے اعتراض کا نام ہی توبہ ہے لوگ توبہ کا مطلب بھی نہیں سمجھتے ہیں زبان سے توبہ کر لینے کو توبہ سمجھتے ہیں اور دل میں ہمارے وہی گناہ والی بات ہوتی ہے اور ایک بات یہ بھی سن لیں کہ چہرے پر دوچار بار ہاتھ مار لینے کا نام توبہ نہیں ہے توبہ کا تعلق تو دل سے ہے توبہ دل سے ہی ہوگی۔ اور دل سے توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کو کرنے کا ارادہ نہ ہو۔

خوشخبری سنانے والے کو ہدیہ دینا

ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان لے کر ایک صحابیؓ تشریف لائے تو جن کے پاس وہ آئے تھے انہوں نے اس خوشخبری سنانے والے کو اپنی قمیص اتار کر ہدیہ میں دیدی یہاں سے علماء نے لکھا ہے کہ خوشخبری سنانے والے کو ہدیہ دینا سنت ہے اس لئے گجرات میں ایک رواج ہے لوگ اس کو رواج سمجھتے ہوں، اور رواج بھی وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کو پیسہ نکالنا جان پر آتا ہے اور وہ رواج یہ ہے کہ مثلاً آپ

کے گھر بچہ پیدا ہوا، اور آپ کی بہن نے سب سے پہلے آپ کو خبر دی تو بدھائی مانگتی ہے تو اس کو دینا چاہیے، اب اس مسئلہ کے لئے مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، پندرہ چھپیس پاؤ نڈاں کو دیدینے چاہیے اس کا حق ہے ہمارے بزرگوں نے ایک سنت ثابت کی کہ ان کے پاس وہ خوشخبری لیکر آئے تو انہوں نے اپنا کرتہ مبارک پیش کر دیا۔

ان حضرات کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم

کیسے خوش ہونگے وہ صحابہ کرام جن سے سو شیل باہکات کیا گیا تھا ب پوری کے پوری مسلم امت کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تین سچے لوگ ہیں جو میرے نبی کے صحابہ ہیں تم ان سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو۔ ان حضرات کا باہکات ہوا تھا لیکن سچ کا فائدہ ہوا، اور وہ منافقین جھوٹ بولکر چھوٹ گئے تھے لیکن آخرت میں انکی گرفتاری ہوگی اور ان کے سچ کا فائدہ یہ ہوا کہ تمام صحابہ کو ان کے ساتھ بات کرنے اور ان کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا چنانچہ اللہ نے فرمایا یا یَهَا الَّذِينَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِيقِينَ، ائے ایمان والو۔ تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔

سچ آدمی کو نجات دلاتا ہے

اور حضور ﷺ نے فرمایا، إِنَّ الصَّدَقَ يُنْجِي وَإِنَّ الْكُذُبَ يُهْلِكَ، سچ انسان کو کبھی نہ کبھی نجات دلاتا ہے، آدمی کو سچ بولنے کی عادت ڈالنی چاہیے وقت طور پر سچ میں انسان کو نقصان ضرور نظر آتا ہے لیکن سچ ہی انسان کو کبھی نہ کبھی بہت بڑا نفع پہنچاتا ہے پیارے نبی ﷺ کی گیارہی ہے ہم لوگ متعدد (Confuse) کیوں

ہوں؟ ہم اپنے ارادے میں متزلزل کیوں ہوں؟ ایک مسلمان اور وہ پوچھئے کہ جھوٹ بولوں گا تو چھوٹ جاوں گا، نہیں، میرے بھائیو یہ بات غلط ہے ہمیں تو نبی ﷺ کے قول پر اعتماد اور یقین ہونا چاہیے کہ نبی ﷺ نے ان الفاظ کے ساتھ صاف اعلان فرمایا اَنَ الصِّدْقَ يُنْجِي مِيقَاتٍ سُجَّلَ بَلَّا إِنَّ الْأَنْسَانَ كَوْنِجَاتٍ دُيْتَاهُ إِنَّهُ أَنَّكَارَادِيَتَاهُ اور جھوٹ بولنا اسکو ہلاک کر دیتا ہے، پھر ہم نے تو جھوٹ بول کر ہی اپنی دنیا بنانی شروع کر دی اب وہ دنیا بننے کے بجائے بگڑ رہی ہے اور دیکھو ایک جھوٹ آدمی کو سو جھوٹ بولنے پر مجبور کرتا ہے۔

سُجَّلَ كَوْنِجَاتٍ سُجَّلَ بَلَّا إِنَّ الْأَنْسَانَ كَوْنِجَاتٍ دُيْتَاهُ کی تربیت

دیکھئے! حضور پاک ﷺ کے پاس ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی تربیت کے رسول ﷺ میرے اندر زنا کی عادت ہے چوری کی عادت ہے شراب پینے کی عادت ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے اور یہ عادتیں مجھ سے چھوٹی نہیں ہیں آپ اسکا کوئی علاج بتائیے، حضور ﷺ نے فرمایا ٹھیک ہے تو تیرا کام کرتارہ، لیکن ایک وعدہ مجھ سے کر لے کہ ہمیشہ سُجَّلَ کو نہیں کہتا کہ یہ گناہ چھوڑ، وہ گناہ چھوڑ، وہ گناہ چھوڑ، بلس مجھ سے سُجَّلَ بولنا اب جتنے لوگ اس مجلس میں بیٹھے تھے سب تعجب کی نگاہ سے اسے دیکھنے لگے کہ یہ کیا بات ہے حضور ﷺ کو تو یہ فرمانا چاہیے کہ سب کچھ گناہ چھوڑ دے جبکہ فرمایا کہ ٹھیک ہے تو کرتارہ۔

پر ایک کام یہ کر کہ تو ہمیشہ سُجَّلَ بولا کر، جھوٹ مت بولا کر، اور یہ تربیت کرنے کا ایک

طریقہ تھا وہ صحابیؓ وہاں سے چلے گئے انہوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے مجھے جھوٹ بولنے سے کیوں روکا؟ دوسرے کاموں پر تنبیہ نہیں فرمائی ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اب میں جب بھی حضور ﷺ کی خدمت میں جاؤں گا آپ ﷺ پوچھیں گے کہ کیا تو نے زنا کیا ہے؟ تو مجھ کو سچ کہنا پڑیگا حضور ﷺ پوچھیں گے کہ کیا تو شدہ ہوں میری تو زندگی ہی ختم ہو جائیگی چوری کر کے آیا ہے تو سچ کہنا پڑے گا تو ہاتھ کا ٹے جائیں گے ایک علاج آپ ﷺ نے بتایا اور ساری بیماریاں ختم، حالانکہ علاج ایک ہے۔

آپ ﷺ کامل ڈاکٹر تھے

میں نے ابھی ایک دو دن پہلے ایک مثال دی تھی کہ بڑا ڈاکٹر زیادہ دوائی نہیں دیتا ہے، وہ ایک دو گولیاں دیکر ساری بیماریوں کا علاج کر دیتا ہے، آپ ﷺ کامل بلکہ اکمل ڈاکٹر تھے، آپ ﷺ زیادہ دوائی نہیں بتایا کرتے تھے، بعض مرتبہ صحابہ کرامؐ بے تکلف رہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ﷺ کچھ نصیحت کیجئے اللہ کے رسول ﷺ ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ، لَا تُغْضَبْ، غصہ مت کرنا لوگوں کے ساتھ رہائی مت کرنا باظاہر یہ جملے مختصر ہیں لیکن ان کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔

پھول کی صحبت سے تقویٰ ملتا ہے

بہر حال۔ ان تین صحابہ کرامؐ کو سچ بولنے کا انتابڑا اجر ملا کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ شہر کے تمام لوگوں کو حکم دیا بلکہ قرآن پاک میں ان حضرات کا ذکر خیر فرمایا، اور

یا ایٰہَا الَّذِینَ امْنُوا کے ذریعہ قیامت تک کے انسانوں کو حکم دیدیا کہ تقوی پر آگ رہنا ہے تو پچھے لوگوں کے ساتھ صحبت رکھنی ہوگی اور یہ تصوف اس آیت کریمہ میں آگیا کہ اصل مقصد تقوی ہے: اور تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا کہ **كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ** : کہ اے لوگوں پھوپھوں کے ساتھ رہو، اس لئے کہ جب انسان پھوپھوں کے ساتھ رہے گا تو اس کی طبیعت بھی سچی ہی بنے گی کسی نے بالکل بے غبار بات کہی ہے کہ

صحبت صالح ترا صاحب کند۔

اہل اللہ کی صحبت سے آدمی کامل بنتا ہے

دیکھو میرے بھائیو۔ کتابیں پڑھ کر آدمی کامل نہیں بنتا ہے بلکہ اہل اللہ کے پاس رکھر آدمی کامل بنتا ہے اس خاص بندہ کے ساتھ رکھر جس کے دل پر خدا تعالیٰ کی نظر ہوتی ہے اس کے دل پر انوار و تجلیات اترتے ہیں نیک لوگوں کی صحبت میں رکھر ہی آدمی نیک بنتا ہے اللہ والوں کے ساتھ رکھر اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے ساتھ رکھر آدمی صالح بنتا ہے، اور یہ وہ حضرات ہوتے ہیں کہ جن کی صورت دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔

رجال اللہ ہرزمانہ میں آئے ہیں

اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے دنیا میں دون نظام چلائے ہیں (۱) ایک رجال اللہ کا نظام (۲) دوسرے کتاب اللہ کا نظام، ایسا تو کئی دفعہ ہوا کہ کتاب اللہ نہ آئی ہو لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رجال اللہ نہ آئے ہوں، اور کتاب اللہ کے اوپر اکتفاء کر لیا گیا

ہوا ایسا کبھی نہیں ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کئی انبیاء کرام ایسے ہیں جو نبی بن کر آئے ہیں کوئی کتاب ان کے ساتھ نہیں آئی، انہوں نے پچھلے نبی کی کتاب پر ہی لوگوں کو تعلیم دی اور انہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پچھلے نبی کی ہی کتاب کے مطابق لوگوں کی رہبری (Guidence) کرتے رہو۔

انسان ہی انسان بناتا ہے

انسان ہی انسان بناتا ہے کتاب انسان نہیں بناتی ہے کتاب تو نقوش کا نام ہے وہ تو ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے اصل تو ہمارا دین اسلام سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے، اگر صرف کتاب کے ذریعہ ہی آدمی کامل موسن بنتا تو لوگ اپنے گھروں پر ہی کتابیں خرید کر عالم دین بن جاتے، مدارس دینیہ کھولنے کی بالکل ضرورت ہی نہ ہوتی، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے آج کل تو اور بالخصوص آپکے اس ملک (Country) میں تھوڑی بہت کتابیں پڑھ لیں اور تھوڑا بہت قرآن حفظ کر لیا تو اپنے آپ کو مفتی سمجھتے ہیں علم کی تو کوئی بوہے نہیں، اور بن گئے مفتی، دیرہ حاشیہ کی مسجد قائم کرتے ہیں اور اس کے کھنڈاں فرائیں کو تو سمجھا نہیں، اللہ تعالیٰ کو اور حضور ﷺ کو اور فرائیں عالیہ اور اس کی روح کو اور نبوت کو تو سمجھا نہیں اور بن گئے مفتی۔ انہیں اللہ کے رسول ﷺ کو ناراض کرنے کی تو کوئی پرواہ نہیں، انہیں فکر ہے کہ ہماری کنٹری کے لوگ ہم سے خوش رہیں، ایسے لوگوں سے خدا تعالیٰ کہاں خوش ہو سکتا ہے۔

ہم غیروں کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں

مسلمانو!! ایک بات کا نکاح کرنے لوگوں کے ہمراہ موقعاً پر ہم نے کوشش کی کہ ہماری ملک کے لوگ ہم سے خوش ہو، اور دشمنانِ اسلام خوش ہو، اور ہم نے اس کی کوشش نہیں کی کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے خوش ہو، شریعت ہم سے خوش رہے، ہم نے کہاں اس کی کوشش کی؟ اگر ایسا ہے تو پھر اپنے ایمان کی خیرمنانی چاہیے، صاف بات ہے اتنا زیادہ ہم ان لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں کہ اسلام کے خلاف اعمال ہم کرنے لگ جائیں یہ بالکل غلط بات ہے۔

حالانکہ یہ بات طے ہے کہ جب تک ہم ان کے دین کی پیروی نہیں کریں گے، وہ ہم سے راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ قرآن نے پہلے ہی پارے میں اعلان فرمایا کہ، لَنْ تَرْضِيَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصاریٰ کو تم خوش کرنے کی کتنی ہی کوشش کرو، ان کو اپنی کانفرنس میں بلا و، ان کو اپنے سینما ر میں بلا و، ان کی کانفرنسوں میں آپ جائیں، ان کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ کر آپ کھانا کھائیں، وہ اس وقت تک راضی اور خوش ہونے والے نہیں ہیں جب تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کریں، وہ راضی ہونے والے نہیں ہیں، آپ اپنے بارے میں یہ سمجھتے ہو نگے کہ یہ ہمارے بارے میں دشمنی کو دور کریں گے اور ہمارے ساتھ ملیں گے، قرآن نے صاف اعلان کیا کہ، لَنْ تَرْضِيَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، قرآن اپنی جگہ تجھے ہے قرآن پاک نے پہلے ہی فرمادیا اور اس کے فرمان میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔

زہر اللہ والوں سے دوری کی بناء پر ہے

پتہ نہیں یہ زہر ہمارے نوجوانوں میں کہاں سے آ رہا ہے اور یہ زہر اسی لئے آ رہا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میسر نہیں ہے کسی اچھے استاذ کی تربیت حاصل نہیں ہے میرے بھائیو، اس بات کو یقین کے ساتھ سنو کہ خصوصی مطالعہ کے ذریعہ آدمی کامل نہیں ہو سکتا، جب تک کہ کسی استاذ کی شاگردیت کو اختیار نہ کرے اور جو کسی عالم کے ماتحت بھی نہیں رہتا، وہ قرآن کے ذریعہ بھی بھٹک سکتا ہے کیا دوا کاریکشن نہیں آتا ہے، کیا ملٹی وٹامن کاریکشن نہیں آتا ہے؟ کیا ڈاکٹر کے مشورہ کے بغیر اگر آپ نے کسی دوا کا خوراک زیادہ لے لیا تو آپ کو ریکشن نہیں ہو گا؟ ریکشن ہو گا اور اس میں ڈاکٹر کا بھی کوئی قصور نہیں ہو گا اسی میں طریقہ کے اختیار کرنے کا قصور ہے لگھی انسان کو طاقت دیتا ہے اس سے کون انکار کرے، لیکن اگر آپ کو زکام یا سردی ہے اور ڈاکٹر کی اجازت آپ نہیں لی، اور آپ کیلا دبائے جا رہے ہیں اور لگھی پیتے جا رہے ہیں بتائیے آپ کو طاقت ملے گی یا بیت الخلاء لگیں گے؟ طاقت تو نہیں ملے گی البتہ بار بار بیت الخلاء کا دورہ کرنا پڑے گا۔

قرآن پاک کا ترجمہ ضرور پڑھیں مگر؟

قرآن پاک بہر حال ہدایت کی کتاب ہے احادیث طیبہ بے شک کتاب ہدایت ہیں لیکن جب تک کسی عالم دین کی رہبری میں اس کو سیکھا نہیں جائیگا، تب تک وہ قرآن پاک سمجھ میں آنے والا نہیں ہے آدمی بھٹک سکتا ہے اور قرآن نے بھی تو کہا ہے، **يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ**۔ کماں

کتاب کے ذریعہ کئی لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور اس کتاب کے ذریعہ کئی لوگ ہدایت پاتے ہیں، اور ایک روایت میں تو فرمایا اللہ کے نبی ﷺ نے کہ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْفُعُ بِهِذَا لُكِتَابٍ أَقْوَامًا وَيَضْعُ بِهِ الْخَرِيفِينَ۔ کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعہ کئی قوموں کی تقدیر کو اونچا کرتے ہیں، اور کئی لوگوں کو اس کے ذریعہ نیچا کرتے ہیں۔

اپنی عقل سے سمجھنے والا گمراہ ہو جاتا ہے

کئی لوگ جو قرآن پاک کو اپنی عقل کے مطابق لیکر بیٹھتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں وہ دین کے رہتے ہی نہیں ہیں اس کے لئے تو اہل اللہ کی صحبت ضروری ہے اہل اللہ کے پاس رہ کر آدمی کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ قرآن پاک کو بھی پڑھے گا تو سمجھ کر پڑھے گا پوچھ کر مطلب سمجھے گا، نہ کہ اپنے ذہن میں اس کا جو مطلب آیا سمجھ لیا اور بیان کرنے بیٹھ گیا۔

اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کی مثال

حضرت حکیم صاحب بڑی اچھی مثال دیا کرتے تھے، کہ جب کوئی اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ اپنے قلب کو بھونتا ہے اور اس کے قلب کے اندر عشق الہی سے جلنے والی چنگاری کے ذریعہ وہ اپنے دل و دماغ کو جلاتا ہے، پھر اس کو کسی جگہ اعلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں ایک ثقیتی ہیرا ہوں بلکہ دنیا والے خود اس کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ کوئی اللہ والالگ رہا ہے۔ حضرت فرماتے تھے ہیں کہ جیسے کہ ایک

کباب اور کچا سمسم سے ہوتا ہے، عورتیں اس کے اندر مسالہ بھرتی ہیں، اور رکھ دیتی ہیں لیکن اسکی خوشبو کسی کو بھی نہیں آتی ہے اس لئے کہ ابھی کچا ہے، حتیٰ کہ خود گھروالوں کو تک پتہ نہیں چلتا ہے لیکن وہی سمسمہ اور وہی کباب جب گرم گرم تیل کے اندر ڈالا جاتا ہے اور اس کو تلا جاتا ہے اور وہ سمسمہ اور کباب گرمی کو برداشت کرتا ہے تو اب اسکی خوشبو کے اعلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ خود بخوبی محسوس کی جاتی ہے۔ اور ویسے بھی ایک مقولہ مشہور ہے کہ: بونے کباب مار مسلمان کر دو: کہ کباب کی بونے مجھے مسلمان بنادیا، ایسے ہی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ اپنے آپ کو بھوننا ہے جب آپ بھون جاؤ گے تو دنیا والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ آپ کے اندر یہ خوبی ہے اور یہ خوبی ہے خود بخوبی آپ کی خوشبو کا چرچہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی کتاب اتنی آسان نہیں ہے، یہ بخاری شریف اور یہ مسلم شریف اور یہ طلباء اور یہ علماء اتنے یقوقف تھوڑے ہیں کہ دس دس سال مدرسون میں جا کر لگاتے ہیں گھر بیٹھے صرف قرآن کا ترجمہ آجائے تو پھر کہنا ہی کیا، میں تو صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی ٹیلر بننا چاہے تو کیا وہ خالی کتاب پڑھ کر ٹیلر بن سکتا ہے بتاؤ؟ ﴿جی نہیں﴾

گھر بیٹھے آدمی ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے

ڈاکٹری کی لائن میں بھی آپ نے دیکھا ہو گا کہ ساڑھے چار سال تک ایک طالب علم پڑھتا ہے، اور اس کو ڈاکٹر لوگ ہی پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی عملی مشق کرواتے ہیں، اور اس کے پاس ہر قسم کا کام کروایا جاتا ہے، لیکن اس کو سرٹیفکٹ نہیں ملتا ہے، انٹر شپ کرنا پڑتا ہے، تب جا کر اس کو وہ سرٹیفکٹ ملتا ہے، اور پھر وہ اپنا

کنگ کھول سکتا ہے ارے بھائی اس نے چار سال تک پڑھا، تب جا کر اسے یہ حقیر ڈگری ملی، اب بتاؤ کہ اللہ کے کلام کے سامنے ڈاکٹری کی کیا حیثیت ہے، اللہ کے کلام میں جو علوم رکھے ہیں اس کے سامنے ٹیلر نگ اور الکٹریشن کی کیا حیثیت ہے، تو جب ٹیلر نگ اور الکٹریشن گھر بیٹھے پڑھنے سے کچھ سمجھ میں نہیں آتے ہیں، جب تک کہ اس کو کسی کے ساتھ رہ کر نہ سیکھا جائے، تو کتاب اللہ اور بخاری اور مسلم کی یہ حدیثیں آج آدمی خود بخود کیسے سمجھ سکتا ہے، اس کو تو دل والوں کے پاس بیٹھ کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔

اپنے بچوں کو اللہ والوں سے جوڑو

میرے بھائیو!! اس لئے سن لو کہ اس زمانہ میں اپنی اولاد کی سب زیادہ یہ تربیت کرو کہ وہ بچے اللہ والوں سے مربوط ہو جائیں، میں ادباً آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ اس چیز کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہماری نئی نسل کسی نہ کسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہونی چاہئے، جب یہ کنکشن جڑا ہوا رہ گا تو انشاء اللہ دوسرے ڈاکو اس پر حملہ نہیں کر پائیں گے، اور وہ ہر شیطانی فتنہ سے محفوظ رہے گا۔

دعوت تبلیغ بہترین اصلاحی عمل ہے

پھر جماعت میں لگ کر ہو، چلمہ چار مہینہ لگا کر ہو، سال لگا کر ہو، دیکھو اس زمانہ میں نوجوان اور بوڑھے سب کے لئے دعوت تبلیغ بہترین اصلاحی عمل ہے اس لئے کہ پہلے انسان اپنی اصلاح کے لئے خانقا ہوں کے اندر جاتا تھا اور اپنی اصلاح کرواتا تھا، اب اس زمانہ میں کہاں خانقا ہوں کا وجود رہا: الا ما شاء اللہ۔ اسلئے

اس زمانہ میں تبلیغِ ماشاء اللہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں اپنی زیادہ تر اصلاح ہو سکتی ہے کہ اس میں خدمت کی بھی باری آتی ہے اپنا جھولاخود کو اٹھا کر چلنا پڑتا ہے، کبھی کھانا ملا، کبھی کچا پاہی ملا، اور پھر اپنی جان اپنا مال، یہ تو بہت بڑی بات ہے اسی لئے علماء تبلیغ فرماتے ہیں کہ قدیم زمانہ میں علماء فراغت کے بعد ایک سال خانقاہوں میں لگاتے تھے لیکن اس زمانہ میں وہ ایک سال ہمیں اللہ کے راستہ میں لگانا ہے، اور اپنی اصلاح کرنی ہے، خانقاہ میں جا کر ہو، یا پھر کسی اچھے عالم رباني کے ساتھ لگ کر ہو، اور وہ ایک ایک چیز پوچھے بغیر کرنے والا نہ ہو، انشاء اللہ اسی میں پوری پوری کامیابی ہوگی۔

اکیلا انڈا گندرا ہو جاتا ہے

ورنہ میرے بھائیو۔ انڈا اگر اکیلا رہتا ہے تو وہ انڈا بھی گندرا ہو جاتا ہے، لیکن اگر اسی انڈے کے اوپر مرغی بٹھادی جائے، تو اسی میں سے پھر چوزے نکلتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مرغی بٹھائی جاتی ہے تو اس انڈے سے اکیس دن میں بچے نکلتے ہیں لیکن ان میں بھی جو انڈہ اکیلا رہتا ہے وہ گندہ ہو جاتا ہے ہماری آج کی نئی نسل کو الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے سمجھ بوجھ اچھی نصیب فرمائی، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان بچوں کو علماء کے ساتھ مر بوط کریں انشاء اللہ یہ بچے بھی اچھی نسل پیدا کریں گے، اور پھر وہ اکیلے رہ کر گندے نہیں ہونگے۔

حضرت مولانا اسعد صاحب مدینی کا مفروض

مجھے اچھی طرح یاد ہے حضرت مولانا اسعد مدینی جن کو اب ہم رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ان علماء کی قبروں کو نور سے بھردے، وہ ہندوستان میں کئی

مرتبہ فرماتے تھے کہ میں جب یورپ کی کنٹری میں جاتا ہوں، تو وہاں کے لوگوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی اولاد کو ہندوستان و پاکستان کے علماء کے ساتھ مر بوط رکھو، جس کے نتیجہ میں ان کا دین سلامت رہے گا، ورنہ جونو جوان گھر بیٹھے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سن لیں کہ اگر علماء کے ساتھ روابط نہ رکھو گے، تو معاشرہ کے لئے بربادی کا سبب بن جاؤ گے۔

پچوں کی صحبت سے انسان سچا بنتا ہے

پچوں کے ساتھ رہنے سے آدمی کا دین سلامت رہتا ہے، اسی لئے تو قرآن پاک نے فرمایا کہ، يَا إِيَّاهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِيقِينَ، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اسلام کا مزاج سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اہل اللہ کے ساتھ ہمیں تعلق قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس لئے کہ اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، کہ نیکوں کی صحبت تجھے نیک ہی بنا نیکی صالح نوجوان بنائے گی۔

پچوں کو ہم کہاں ڈھونڈیں

اب رہا یہ سوال کہ اس زمانے میں سچے لوگ کہاں رہیں؟ سب تو جھوٹے ہیں ارے، ہم نے جیسا چشمہ لگایا ویسا ہی ہمیں نظر آیا گا، اور ہمارے مفسرین نے ایک بات بڑی تیقینی لکھی ہے کہ اگر سچے لوگ دنیا میں موجود نہ ہوتے تو پھر اس آیت پاک کا کیا مطلب ہوتا جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اے یمان والو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور پچوں کے

ساتھ رہو، اگر پھوں کی جماعت نہ ہو، اور پھوں کا وجود ختم ہو جائے تو یہ جملہ عبث اور بیکار ہو جائیگا۔ اور قرآن پاک تو عبث سے پاک ہے پتہ چلا کہ ہر زمانہ میں سچے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق کے اوپر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدفراً مائیں گے وہ حق پر جمع رہیں گے بہر حال اہل اللہ ہر زمانہ میں ہوتے ہیں یہ ہماری نظر کی کمی ہے اللہ تعالیٰ شانہ نفس اور شیطان کے حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔۔۔۔۔ امین

وَصَلِيَ اللَّهُ وَسَلَمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَلِهِ وَاصْحَابِهِ جَمِيعِينَ
وَالْخَرْدُوَانَا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بسم الله الرحمن الرحيم

اقتباس

ایک آدمی کسی ملک میں رہتا ہے اس کو اس ملک کے جتنے بھی قوانین اور جتنے بھی دستور ہوتے ہیں اس کو ان پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے اگر وہ اسکے مطابق عمل نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو اس کے جان، اور مال کی سلامتی نہیں رہتی ہے تو اسلام کا یہ نظام ہے کہ اگر کوئی کلمہ کی دعوت کو قبول نہ کرے اور اسلامی حکومت میں رہنا چاہتا ہے تو اس کو جزیہ ادا کرنا ضروری ہے جس کو وہ ادا کر کے اپنی جان اور مال کی سلامتی کی ضمانت لیتا ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

اسلام توار کے زور پر نہیں پھیلا

الحمد لله وحده ، والصلوة والسلام على من لا نبی بعده
، وعلى الله واصحابه الذين اوفوا عهده ، اما بعد -

اسلام کی یہ خاص تعلیم ہے کہ جب انسانیت میں دعوت کا کام کیا جائے تو سب سے پہلے کلمہ کی دعوت دی جائے ان کو توحید اختیار کرنے اور قبول کرنے کی دعوت دی جائے اگر وہ توحید کو قبول کر لیں تو پھر انکے ساتھ کسی بھی فتنہ کا تعریض چھیڑ چھاڑ جائز نہیں ، اور اگر کوئی توحید قبول نہیں کرتا ہے تو پھر اسلامی اصول کے تحت اسکو رہنا پڑے گا اسلام جیسا کہے گا ویسا اس کو کرنا پڑے گا اور بغیر اسلام لائے وہ اسلامی ملک میں رہنا چاہتا ہے تو اسکو جزیہ اور ٹکیس کا ادا کرنا ضروری ہے -

جزیہ اسلام نہ لانے کی سزا نہیں ہے

جب کسی علاقہ میں اسلامی حکومت کا قیام ہوتا ہے تو ہاں کے غیر مسلموں کے سامنے چند باتیں رکھی جاتی ہیں یا تو اسلام لے آؤ اور اگر نہیں لاتے ہو اور اسی علاقہ میں تمہیں رہنا ہے تو کچھ مخصوص رقم ادا کرو جس سے تمہاری جان مال کی

حافظت ہم کریں گے معلوم ہوا کہ جزیہ کا ادا کرنا اسلام نہ لانے کی سزا نہیں ہے، بزرگوں نے بڑا اچھا اس غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے کلمہ توحید کو قبول نہ کرنے کی شکل میں جزیہ لینے کا حکم دیا ہے وہ جزیہ اسلام نہ لانے کی سزا ہے، میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں اسلام کوئی شخص نہ لائے اور اسلامی ملک میں رہنا چاہے تو اس پر جزیہ ادا کرنا ہے، اس جملہ کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ انسان جب مومن ہوتا ہے تو اسکی جان اور اس کا مال محفوظ ہوتا ہے اسکی جان اور اس کے مال کو چھیڑنا اور اس کو پامال کرنا اس کو استعمال کرنا اور اس کو قتل کرنا یہ سب جائز نہیں ہے اور اگر کہیں مسلمانوں کے ساتھ کچھ جانی و مالی نقصان ہو جاتا ہے تو حکومت اس کی ذمہ دار ہے، اگر کوئی غیر مسلم ہے اور وہ جزیہ ادا کرتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی ناگوار واقعہ پیش آتا ہے تو اسلامی حکومت اس کی طرف سے کاروانی کرے گی چاہے کچھ بھی ہو اس کی پوری ذمہ داری مسلمانوں کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اور اگر وہ جزیہ ادا نہیں کرتا ہے تو اس کی جان اور مال کی کوئی ضمانت اسلامی ملک نہیں لیتا ہے۔

زبان سے کلمہ پڑھنے والا محفوظ ہے

لیکن زبان سے جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ محفوظ ہو گیا اس کی جان محفوظ، اس کا مال محفوظ، اس کو کوئی چھیڑ چھاڑنہیں کر سکتا، اور اسی کو قرآن پاک کہتا ہے کہ

وَلَا تَقُولُوا إِلَيْنَا الْقَوْمُ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ
الْدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ: جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے ایمان والو جو کوئی بھی تمہیں سلام کرے چاہے اس کے دل میں کچھ بھی ہو اس کو قتل مت کرو۔

حضرت معاذ بن جبلؓ کو آپ ﷺ کی وصیت

اور اسی طریقہ سے سیدنا معاذ بن جبلؓ جنہیں حضور پاک ﷺ نے یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تھا تو آپ ﷺ نے جواہم ارشادات فرمائے تھے ان میں ایک ارشاد یہ تھا کہ إِنَّكَ تَاتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَاذْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَدَّ معاذ۔ راستے میں تمہارا گزر اہل کتاب یعنی نصاریٰ کے پاس سے ہو گا تم انہیں کلمہ کی دعوت دینا اگر وہ قبول کریں تو ان کی جان اور مال محفوظ ہو گیا، فَقَدْ عَصَمُوا مِنْيَ دِمَاءُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ جس کا ترجمہ یہی ہے جو ہم آپ کو ابھی پڑھ کر سنائے ہیں کہ ان کی جان مال محفوظ ہو گئی۔

حضرت ابو بکرؓ کا استدلال

اور اسی روایت سے سیدنا ابو بکر صدیقؓ نے حضرت عمر فاروقؓ کے سامنے بہت اچھی طرح استدلال کیا تھا اس موقع پر جب کہ آپ ﷺ کے اس دنیا سے پردہ فرماجانے کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم تو حضور اکرم ﷺ کے زمانہ میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے اس لئے کہ قرآن پاک نے حکم دیا ہے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ اۤخ۔ کہا مُحَمَّد ﷺ آپ ان کے پاس سے صدقہ اور زکوٰۃ لیجئے اور ان کے مال کو صاف کیجئے، ان کے دلوں سے بخل کی بیماری کا ازالہ کیجئے، ان کے دلوں سے مال کی محبت کم کیجئے اور ان کے لئے رحمت کی دعا کیجئے اب اس زمانہ میں حضور اکرم ﷺ نہیں ہیں تو یہ سب ہمارا کون کرے گا؟ لوگوں نے اس طرح حیله بازی کی تو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اسی روایت کا سہارا لیکر ان کے خلاف

کارروائی کی اور ان پر ارتدا اور اسلام سے نکل جانے کا حکم لگایا تھا اور ان کے ساتھ جہا فرمایا اور ان کو مار بھگایا۔ بہر حال اہل کتاب اور وہ لوگ جو تو حیدر کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں وہ معصوم الدم نہیں ہیں ان کی جان اور ان کا مال محفوظ نہیں ہے اسلئے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، تو اب انکے جان اور مال کی سلامتی نہیں ہے، اب وہ معصوم الدم نہیں ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد آدمی کو اس کے جان اور اس کے مال کی سلامتی اور حفاظت ملتی ہے اور اسلام قبول نہیں کیا تو اب اس کے جان اور مال کی کوئی ضمانت نہیں ہے اس لئے کہ وہ خدا تعالیٰ کی سرز میں پر اس کا باغی بن کر زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ کی سرز میں پر اس کی بغاوت کرتا ہے اس کی نافرمانی کرتا ہے اس کے خلاف وہ اپنی زندگی گزارتا ہے اب اسکی جان کہاں سے سلامت ہو سکتی ہے؟ یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا تو اب اسکے خلاف تلوار اٹھائی جائے یہ مطلب بھی نہیں ہے بلکہ اس کے کچھ مخصوص اصول ہیں۔

اسلامی ملک میں اسلامی اصول ہونگے

ایک آدمی کسی ملک میں رہتا ہے اس کو اس ملک کے جتنے بھی قوانین اور دستور ہوتے ہیں اس کو ان پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے اگر وہ اسکے مطابق عمل نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو اس کے جان اور مال کی سلامتی نہیں رہتی ہے تو اسلام کا یہ نظام ہے کہ اگر کوئی کلمہ کی دعوت کو قبول نہ کرے اور اسلامی حکومت میں رہنا چاہتا ہے تو اس کو جزیہ ادا کرنا ضروری ہے جس کو وہ ادا کر کے اپنی جان کی اور اپنے مال کی سلامتی کی ضمانت لے لیتا ہے۔

جزیہ نہ دینے والے کا حکم

اور اگر کوئی جزیہ دینے کے لئے بھی تیار نہ ہو تو پھر تیسرا اسٹپ اسلام نے قتل کرنے کا رکھا ہے یہاں سے ان لوگوں کی غلط فہمی بھی دور ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا مزاج یا تو اسلام ہے یا پھر تلوار ہے یہ غلط ہے اسلام نے دوسرا آپشن دیا ہے وہ یہ کہ ٹیکس ادا کر کے اپنی جان اور اپنے مال کی آدمی خصانت حاصل کر لے، اور ٹیکس کیا ہے کہ اپنی حفاظت کے لئے آدمی ایک مخصوص رقم ادا کرے اور اسلامی حکومت میں رہے اور اگر وہ اسلامی حکومت میں نہیں رہنا چاہتا ہے بلکہ نعوذ باللہ، دارالحرب میں منتقل ہونا چاہتا ہے تو پھر اس سے کچھ ٹیکس وغیرہ بھی نہیں لیا جاتا ہے۔

آپ ﷺ کا حضرت ابو عبیدہؓ کو حکم

حضور اکرم ﷺ نے حضرت ابو عبیدۃ ابن الجراحؓ کو بحرین کا گورنر بناء کر بھیجا جہاں نصاری رہا کرتے تھے اور آپؓ نے فرمایا کہ وہاں جو نصاری لوگ رہا کرتے ہیں ان سے جزیہ وصول کر کے لا و چونکہ بحرین اسلامی حکومت میں آپ کا ہے ٹکشن کر کے لا و، اور یہ بات بھی سن لیں کہ آپ ﷺ نے اہل بحرین کے ساتھ صلح کر لیا تھا کہ تم اہل کتاب ہو تم اسلام نہ لانا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے ہماری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے اسلام زبردستی کا حکم نہیں دیتا۔ اور اسلام میں کسی کو داخل کرنے کے لئے کوئی زور زبردستی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے صاف بات ہے، لا اکرَاہ فِي الدِّين۔ کہ دین کے معاملہ میں کوئی زبردستی نہیں ہے ہاں دین میں داخل ہونے کے

بعد پھر زبردستی کی جائیگی وہ باتیں الگ ہیں اسلام میں داخل کرنے کے لئے کسی کو کوئی زبردستی نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو اسلام قبول کروایا جائے اور اس کو مجبور کیا جائے، نہیں ایسا بالکل نہیں ہے۔

ایک صحابیؓ کا واقعہ

یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ وہ اسی پس منظر میں نازل ہوئی کہ ایک صحابیؓ کے بھتیجے جو مدینہ میں کچھ تیل کی تجارت کرنے کے لئے آئے تھے اور وہ صحابی خود پہلے نصرانی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے مشرف فرمایا اب جب یہ بھتیجے مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے ان کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا تو اس وقت یہ آیت کریمہ اتری، لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ، دودھ کو دودھ کہنے کے لئے کسی کو زبردستی نہیں کی جاتی ہے دودھ تو ہر ایک کو دودھ ہی نظر آتا ہے دودھ ہر حال میں دودھ ہی ہے اسے منوانے کے لئے کسی کو زبردستی نہیں کی جائے گی۔

اگر کوئی دودھ کو دودھ نہیں مانتا ہے یا اس کو زہر کہتا ہے یا اس کی بے وقوفی ہے آپ کتنا ہی سمجھائیے، نہ ماننے والے کے لئے زبردستی بھی کوئی کام نہیں کرتی ہے، قرآن نے وجہ بھی ذکر فرمائی کہ، قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف ہو گیا۔ حضرت تھانویؒ نے اس کا مرادی مطلب کسی مجلس میں ذکر فرمایا تھا، قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، کا ترجمہ تو الگ ہوتا ہے، لیکن اس کا مرادی مطلب یہ ہوتا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف ہو گیا اب کسی کو زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں۔

بھرین والوں کے ساتھ صلح

آپ ﷺ نے بھرین کے نصاریٰ کے (Christian) کے ساتھ مصالحت فرمائی، صلح فرمائی اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام زبردستی کرنا نہیں چاہتا، حضور ﷺ چاہتے تو ان لوگوں کے ساتھ صلح کیوں فرماتے؟ اگر حضور ﷺ اسلام کو جروا کراہ اور زبردستی کے بل بوتے پڑی قبول کروانا چاہتے تو بھرین والوں کے ساتھ صلح نہ فرماتے یہ ایک نہیں بلکہ کئی کئی واقعات اس طرح کے اسلامی تاریخ میں بھرے پڑے ہیں۔ جن سے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام نے کسی بھی موڑ پر زبردستی نہیں کی بلکہ ہمیں ایسی تو تاریخ ملتی ہے کہ اسلام نے غیروں کا ساتھ دیا، اپنے دشمنوں کا ساتھ دیا لیکن کہیں یہ نہیں ملتا ہے کہ اسلام نے اپنے قبول کروانے کے لئے زبردستی کی

۔۔۔

اہل خیبر کی آپ ﷺ سے درخواست

خیبر تو فتح ہو گیا تھا اور یہ تاریخ بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ خیبر پر جب اسلامی لشکر نے حملہ کیا اور اسلامی لشکر جیت گیا تھا اور ساری زمین مسلمانوں کے ہاتھ آگئی تھی تو خیبر کے لوگوں نے حضور ﷺ کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ آپ لوگوں کو کھیتی کا زیادہ تجربہ نہیں ہے، تم لوگ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے ہو، اور ہم لوگ برسوں سے کھیتی کرتے آئے ہیں اسلئے ایسا ہو کہ زمین آپ کی رہے گی اور ہم لوگ اس میں کھیتی کریں گے اور اس میں ہم طے کر دیتے ہیں کہ جتنا زمین میں سے نکلے گا اتنا حصہ تمہارا اور محنت کے بدله میں ہم کو کچھ دیدیا کرنا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی

طرف سے ایک نظام تھا بعد میں آنے والے ان لوگوں کے لئے جو خود سے کھیتی کرنا نہ چاہتے ہوں اور اپنی زمین بٹائی پر دینا چاہتے ہوں ان کے لئے اس میں سہولت ہے۔ بٹائی کی زمین یعنی کہ کھیتی میری ہے میں کھیتی کو جو تنے کے لئے اور اس میں فصل کرنے کے لئے کسی شخص کو ایک خصوص حصہ طے کر کے دیتا ہوں اور خصوص حصہ طے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی فصل اس میں سے نکلے گی اس میں سے تہائی تمہارا، اور دو حصے میرے یا آدھا میرا اور آدھا تمہارا۔

اور اس طرح کرنے میں کوئی مضائقہ کی بات نہیں ہوتی ہے تو آپ ﷺ نے ان لوگوں کے ساتھ مصالحت فرمائی اور آج کل اس ملک میں بھی علمی یوں پر جو یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے اسلام زبردستی اپنے آپ کو قبول کروانا چاہتا ہے یہ مذکورہ دلائل صاف دلالت کرتے ہیں کہ اگر زبردستی حضور اکرم ﷺ کو اسلام پھیلانا ہوتا تو آپ ﷺ ان سب لوگوں سے مصالحت نہ فرماتے اور نہ خبر والوں کے ساتھ آپ ﷺ مصالحت فرماتے اور ایسے تو اسلامی تاریخ میں کئی ایک واقعات ملتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے مصالحت فرمائی ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی اور بھی بہت سے مواقع ہیں حضور ﷺ نے بحرین والوں کے ساتھ مصالحت فرمائی تھی اور ان پر حضرت علاء ابن حضرم رض کو گورنر بنی کمر رفرما�ا تھا اور حضرت ابو عبیدہ رض کو مال لینے کے لئے بھیجا تیکس کامال تھا جس کو ہم جزیہ کے نام سے سن رہے ہیں اور اس کو یاد بھی رکھیں ایسا نہیں کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے چھوڑ دیا۔

اس وقت مسلمانوں کے حالات اتنے سازگار نہیں ہوئے تھے مسلمانوں کے کچھ

حالات بنے بھی تھے تو وہ غزوہ خیبر کی فتوحات کے بعد، جسکی بشارت اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دی تھی کہ، **نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفُتُحٌ قَرِيبٌ وَبَشَّرَ الْمُؤْمِنِينَ**. ابو داؤد کی بعض روایات سے پتہ چلتا ہے صحابہ کرامؐ فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنی فتوحات نصیب فرمائی کہ ایک ایک صحابیؐ کو چالیس چالیس ہزار درہم حصہ میں آئے اس زمانہ کے اعتبار سے یہ کوئی معمولی رقم نہیں تھی اور اس کے بعد مسلمانوں پر اچھے حالات شروع ہوئے اس سے پہلے بیت المال میں جو بھی مال مال غنیمت کی شکل میں یا ٹیکس کی شکل میں آتا تھا صحابہ کرامؐ بے چارے ضرورت کی وجہ سے کچھ امید رکھتے تھے۔

ابوعبیدہؓ کے آتے ہی صحابہ کرام خوش ہو گئے

انصار نے مدینہ میں جب یہ سنا کہ حضور اکرم ﷺ کے بھیجے ہوئے کلکٹر نے جن کو بحرین سے جزیہ وصول کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا وہ جزیہ یہ لیکر آئے ہیں تو تمام صحابہ کرامؐ خوش ہو گئے انہوں نے سوچا کہ ہماری غربت کو منظر رکھ کر ہم کو بھی کچھ دیا جائیگا اور ہمارا بھی اس میں حصہ رکھا جائیگا صحابہ کرامؐ نے فجر کی نماز آپ ﷺ کے ساتھ پڑھی جب فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرامؐ آپ ﷺ کی طرف دیکھنے لگے، حضور ﷺ سمجھ گئے کہ میرے صحابہ شاید اس امید پر بیٹھے ہیں کہ انہیں بھی آنے والے جزیہ کے مال میں سے کچھ دیا جائیگا۔ تو حضور ﷺ جیسے مرتبی اکمل اور آپ ﷺ جیسے معلم کامل مرشد اعظم انہوں نے فوراً بجانپ لیا کہ صحابہ کرامؐ میری طرف دیکھ کر کیا کہنا چاہتے ہیں اور اس وقت ان کا کیا منشا ہے۔

آپ ﷺ کا جواب

تو حضور ﷺ مسکرائے اور فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں یہ بات پتہ چل گئی کہ ابو عبیدہ بھرین سے جزیہ لے کر آئے ہیں مجھے یہ سب سمجھ میں آ رہا ہے صحابہ کرام نے فرمایا کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے آپ نے ہمارے بارے میں جو سوچا وہ صحیح ہے اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ؛ فَابشِرُوا؛ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، کہ میں تم کو نا امید نہیں کرنا چاہتا اور میں تمہیں خوش کرنے والی چیز کا تذکرہ تمہارے پاس کروں گا اور میں تمہاری ضروریات کو پورا کروں گا تمہیں اطمینان ہو جائیگا۔

آپ ﷺ کا میا ب استاذ بھی تھے

حضور ﷺ اپنے صحابہ کرام کو سمجھتے تھے جیسے شاگرد استاذ کو سمجھتا ہے اور استاذ شاگرد کو سمجھتا ہے کامیاب استاذ اسی کو کہا جاتا ہے جو اپنے طالب علم کے چہرے سے سمجھ لے کہ اس کی سمجھ میں بات آ رہی ہے یا نہیں یہ کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے یا کچھ بولنا چاہ رہا ہے کامیاب استاذ وہی ہوتا ہے ہمارے یہاں اسلامی نظام میں استاذیت اور شاگردیت کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ کچھ منٹ، یا کچھ گھنٹے کے لئے پیکھر دے، اور چلا جائے استاذ کو نہ شاگرد سے کچھ پڑی ہے اور نہ شاگرد کو استاذ سے کچھ پڑی ہے وہ تو دل کا تعلق دل سے ہوتا ہے استاذ اپنے شاگرد کے چہرے سے بھانپ لیتا ہے کہ میرا شاگرد کیا کہنا چاہتا ہے۔

آپ ﷺ کی رزق کے بارے میں پیشین گوئی

لیکن آگے ترتیب فرمائی کہ اللہ کی قسم کھا کر فرمایا اور دیکھو آپ ﷺ قسم بہت کم کھایا کرتے تھے جہاں بہت ضروری ہوتا تھا وہیں قسم کھاتے تھے حضور ﷺ نے فرمایا کہ مَا الْفَقْرُ أَخْشِي عَلَيْكُمْ کہ میرے صحابے مجھے تمہارے بارے میں کوئی خطرہ نہیں ہے کہ تم پر فقیری آئیگی اور صحابے کے واسطے سے قیامت تک آنے والی امت کو خطاب فرمایا ہے کہ مجھے میری امت کے بارے میں اطمینان ہے کہ میری امت کو ضروریات کے مطابق روزی ملے گی میری امت لوگوں کے سامنے دست نگر بن کر نہیں رہے گی اور دیکھو پورے کا لفظ فرمایا سہولت کا نہیں ضرورت الگ ہے سہولت الگ ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت اور حاجت پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے راحت پورا کرنے کا ذمہ نہیں لیا ہے۔

ورنہ آپ کہو گے کہ ہمارے پاس کہاں موڑ گاڑیاں ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ حضور ﷺ نے ضرورت فرمایا راحت نہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ مَا الْفَقْرُ أَخْشِي عَلَيْكُمْ مجھے اطمینان ہے کہ میری امت پر اتنا زیادہ فقر و فاقہ نہیں آئیگا مجھے تو ڈر دنیا کی کثرت کا ہے خطرہ تو مجھے اس بات کا ہے کہ میری امت پر دنیا پانی کی طرح بہادری جائیگی اور میری امت اس کو ہضم نہیں کر سکے گی پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ أَخْشِي عَلَيْكُمْ لَآنِ يَسْطُطُ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ کہ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ تم پر اور تمہارے بعد آنے والی اسلامی امت پر دنیا ریل پیل کی بہہ جائیگی اسی لئے اگر فیصلہ کے اعتبار سے دیکھا

جائے تو مسلمان اتنے زیادہ غریب نہیں ہیں۔ لندن والو! تم بھی بہت مالدار ہو، لیکن اگر تم افریقہ میں چلے جاؤ تو وہاں مالدار ہونے کا مطلب مسلمان ہونا ہے، کوئی مالدار دکھاتا لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں (الاما شاء اللہ) اور اگر مسلمان غریب بھی ہیں تو یہ مسلمانوں کی اپنے ہاتھ کی بات ہے اور پھر دوسری قویں بھی غریب ہیں۔

اگر ایک آدمی اپنے ہاتھ سے ہی اپنے سر پر مارتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے تو اسکی شکایت بے جا ہے ہم لوگ جو غربی کاروں ناروتے ہیں یہ خود اپنی ہی طرف سے ہے اور اگر غربی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس نے ایک نظام تو جاری فرمایا ہے کہ، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَايَفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجاتٍ، ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ، وَرَفَعْنَا بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجاتٍ، تو فقر و فاقہ جو ہمارے ذہن کے اندر ہے کہ مسلمان غریب ہیں تو اتنے بھی نہیں ہیں جتنا کہ انٹریشنل یوول پر اس کی ایڈوٹائز کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے امین۔

وصلى اللہ و سلم على سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بسم الله الرحمن الرحيم

افتباں

آج تراویح میں جو آخری رکوع پڑھا گیا اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی عقیدہ کو سمجھایا کہ، **اللّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْشَى وَمَا تَغْيِضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ**، مرد نے اپنی بیوی سے ہمستری کی تو خدا تعالیٰ اسی وقت سے جانتا ہے کہ اس منی کے قطرہ کے ذریعہ کیا پیدا ہو گا لڑکا یا لڑکی؟ اللہ تعالیٰ ہی اس کو جانتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں ہمارا یہ چلینج ہے ابھی بھی ہم چلینج کرتے ہیں کہ جس وقت بچہ کا نئے ماں کے پیٹ میں بویا گیا کوئی امریکہ کوئی آسٹریلیا کوئی برطانیہ ذرا یہ بتلا دے پہلے ہی دن، یا پہلے ہی مہینہ میں اس نطفہ میں کیا ہے؟ لڑکا ہے یا لڑکی ہے قرآن ان کے سامنے چلینج کر رہا ہے کہ تم نہیں بتلا سکتے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُ تَعَالَى كَا عِلْمٍ هُرْجِيزْ كُو مَحِيطٌ هُرْ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم

اما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فاعوا ذ
بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللَّهُ يَعْلَمُ مَا
تَحْمِلُ كُلُّ اُنْشَى وَمَا تَغْيِضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزَدَّادُ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ
بِمِقْدَارٍ، عَالِمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ.

صدق الله مو لنا العظيم:-

محترم بھائیو۔ بزرگو۔ اور دوستو !!

الله رب العزت علیم ہے خبیر ہے دنیا کا کوئی کوئی پتہ بھی اگر ہلتا ہے ساتوں زمین
کے نیچے اگر کوئی چیزوں کی بھی ریثگتی ہے اسکی آہٹ کو اور اسکی آواز کو بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں
ساتوں زمین اور ساتوں آسمان میں کوئی کیس ایسا نہیں ہوتا جو خدا کے علم سے باہر ہو
اس نے فرمایا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، میں ان تمام چیزوں کو جانتا ہوں جو
خشنگی اور سمندر میں ہوتی ہیں۔ بلکہ اپنے علم کے محیط ہونے کو بتانے کیلئے اور اپنے علم کے
عام ہونے کو بتانے کیلئے ایک عمومی انداز میں اس نے سمجھایا کہ، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ

وَرَفِقٌ إِلَّا يَعْلَمُهَا كَمَا يَكْتُبُ بِهِيْ بَحْرَ كَرْنَهُ وَالا هُوتَاهُ تَهُو خَدَادَسَ كَوْجَانَتَاهُ وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ زَمِينَ كَمَا تَارِيكِيُوْ مِنْ اَكْرَكُونَيْ نَجِيْ بُويَا جَاتَاهُ تَهُو اسَنْجِيْ مِنْ سَهُو دَانَلَهُ گَانَلَهُ كَرَكَنَهُ پَتَهُو نَنَگَهُ يَانَهِيْ نَلَهُ گَا، يَا سَهُكَمَنَهُ كَمَنَهُ كَهُ بَعْدَ كَوَنَيْ سِيلَابَ آجا یَگَا يَا آگَ آكَرَسَ كَوْخَمَ كَرَدَيْ گَيْ انَسَارِيْ چِيزَوْنَ كَوَالَّهُ تَعَالَى جَانَتَهُ ہِيْ ازَلَ سَهُ لَيْکَرَابَتَكَ كَوَنَيْ چِيزَايِسِيْ نَهِيْ ہِيْ جَسَ كَوَكَهُ اللَّهُ تَعَالَى نَهَ جَانَتَهُ ہُوْ اورَ جَوَخَدَا تَعَالَى كَعَلَمَ سَهُ باَهَرَهُو۔

ہماری غفلت کی وجہ

مجھے اصل میں اس وقت یہ بتانا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی جو غفلت میں گزر رہی ہے اور جو منٹ منٹ اور سکنڈ سکنڈ پر ہم خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس حقیقت کو بھلا دیا ہے کہ ہمارے ایک ایک قدم کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہماری ایک ایک بات کو حق تعالیٰ شانہ جانتے ہیں اس کو سنتے ہیں اور جیسے بھی اس کے پاس ٹیپ ریکارڈ ہو، اس کو اسیں منضبط کیا جاتا ہے اس کا صاف اعلان ہے، **مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ:**

ہوا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت

اور اب تو سائنس نے بھی اس حقیقت کو آسان کر کے سمجھا دیا سائنس آواز کی کھونج میں ہے وہ ایک آواز کی تلاش میں ہے، اور اس کی مکمل کوشش یہ ہے کہ آسمان میں پیدا ہونے والے جھونکے کے اندر کوئی نہ کوئی آواز سب سے بڑے سائنس داں جناب نبی اکرم ﷺ کی آواز ہے وہ مل جائے، یا یہ کافون (Reciver) کے ذریعہ

گھروں میں آواز پہنچتی ہے تو یہ آواز کون پہنچاتا ہے؟ یہ آواز ہوا کی لہریں پہنچاتی ہیں ہم فون پر بات کرتے ہیں اور سامنے والا کوئی انڈیا میں ہوتا ہے اور کوئی پاکستان میں ہوتا ہے کوئی امریکہ میں ہوتا ہے اور وہاں جو آواز پہنچتی ہے یہ ہوا کے ذریعہ پہنچتی ہے۔ سیٹ لائٹ تو بہت بعد کی چیز ہے لیکن سیطلا لائٹ کا کنکشن بھی ہوا کے ساتھ ہی ہوتا ہے اسی لئے آپ ایک کمرہ کو چاروں طرف سے بند کر دیجئے اور ہوا کی لہریں اس میں نہ آتی ہوں تو اس کا نیٹ ورک (Reception) نہیں پکڑتا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہوانہ ملنے کی وجہ سے سیٹ لائٹ کے ساتھ اس کا کنکشن نہیں ملتا ہے۔ بلکہ آپ موبائل کو بھی بند کمرے میں رکھ دیں جہاں ہوانہ آتی ہو تو وہاں بھی موباکل ٹاون نہیں پکڑتا، اور اس کی وجہ بھی یہی ہوا کا نہ ملنا ہے اللہ تعالیٰ نے ہوا کے اندر وہ طاقت پیدا کر رکھی ہے کہ انسان کے منہ سے جو بھی چیز بلکتی ہے ہواس کو کچ کرتی ہے۔

فون والوں کی کمالی صرف ملائی

اسی لئے ریسرچ کرنے والوں نے لکھا ہے کہ ٹیلی فون موبائل والوں کی کمالی ایک سال کے بعد خالص ملائی کی کمالی ہوتی ہے جتنا بھی خرچ ہوا ہے وہ ایک سال میں اسکو حاصل کر لیتے ہیں باقی اسکے بعد اسکا کوئی خرچ نہیں ہوتا، یہ تو کبھی بھی ہم لوگوں کو سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی کیا بات ہے کہ پانچ پاؤ نڈ میں دوسومنٹ کی بات فری؟ اثر نیٹ پر ساڑھے تین روپیہ میں ایک منٹ انڈیا سے بات ہو جاتی ہے کبھی کوئی سات منٹ بات کرواتا ہے بعض کمپنیاں بیس روپیہ میں بات کروادیتی ہیں آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا ہے کہ اتنا آسان اور اتنا سستا کیسے ہو گیا، ریسرچ کرنے والوں

نے پھر اس حقیقت کو سمجھایا کہ یہ جتنی بھی کمپنیاں ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ خرچ سیٹ لائسٹ کے بھیجنے کا اور اسکے ساتھ کنٹلشن کرنے کا ہے اور وہ جتنا بھی ان کا خرچ تھا انہوں نے حاصل کیا ہے اس کے بعد تو پھر فری ہی فری، اس لئے کہ فون کی باتیں ہوا کے ذریعہ پہنچتی ہیں اور ہوا کا ٹیکس تو کسی کو ادا کرنا نہیں پڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں انسان کے تابع کر دی ہیں۔

اس لئے جب بھی کوئی کمپنی موبائل یا فون کی شروع میں آتی ہے تو ہم کو معلوم ہے کہ وہ ذرا مہنگی ہوتی ہے ہندوستان میں جب موبائل آیا تو فون آنے کا بھی چارج لگتا تھا 20 روپیہ 25 روپیہ لگتا تھا اور آؤٹ گومنگ کا تو چارج لگتا ہی تھا مجھے اصل بات یہ سمجھانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کے اندر ایسی طاقت پیدا فرمائی ہے کہ وہ ہوا انسان کے منہ سے نکلے ہوئے ایک کلمہ کو اور ایک ایک لفظ کو اخذ کرتی ہے اور اس کو محفوظ کرتی ہے ہم جو بولتے ہیں اس کو ٹیپ ریکارڈ میں محفوظ کیا جاتا ہے یہ کس کے ذریعہ محفوظ کیا جاتا ہے؟ ہوا اس کو پہنچاتی ہے، وہ معمولی سی پٹی ہوتی ہے اگر اسے پھیلایا جائے تو زیادہ لمبی نہ پھیلے، لیکن ایک سی ڈی کے اندر ایک ہارڈسکس کے اندر کئی کئی تقاریر اور کئی کئی لمبے بیانات محفوظ کئے جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر لفظ محفوظ ہے

اللہ رب العزت کے یہاں بھی میرے دوستو ہمارا کوئی جملہ ایسا نہیں جس کو محفوظ نہ کیا جاتا ہو، ایک ایک جملہ محفوظ کیا جاتا ہے اسی لئے قرآن مجید نے ہمیں سکھایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کے منہ کو تلا لگا دیں گے اور پھر یہ چھڑی بو لیکی

یہ انگلی بولے گی یہ پیر گناہوں کا اقرار کریں گے انسان کی آنکھیں بولیں گی اور انسان بہت زیادہ قلق اور افسوس کے ساتھ اور بہت زیادہ تعجب کے ساتھ اپنی چہری سے بولے گا، وَقَالُوا إِلْجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، لوگ اپنی چہری سے پوچھیں گے کہ تم ہمارے خلاف گواہی کیسے دے رہے ہو؟ تمہارے اندر ہمارے خلاف بولنے کی طاقت کیسے آئی؟ تو وہ چہریاں کہیں گی، اَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ: کہ آج بولنے کی طاقت ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہے۔

اعضاء کا انسان کو جواب

مذکورہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی چہری کہے گی کہ ہمیں بولنے کی طاقت اسی ذات نے دی ہے جس نے ہر چیز کو بولتا کر دیا ہم سمجھتے کیا ہیں؟ ہم غفلت میں بتلا ہیں چہری قیامت کے دن کہے گی کہ جس اللہ نے نکر میں بولنے کی طاقت پیدا کی جس اللہ نے درخت کے پتوں کے اندر بولنے کی طاقت پیدا کی، کیا جب درخت ملتے ہیں تو آواز نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی ہے (نکلتی ہے) جب ہوا چلتی ہے تو آواز نکلتی ہے یہی ان کی زبان ہے جو اللہ مینڈک سے بلوا سکتا ہے اور جو اللہ چہریا سے بلوا سکتا ہے اسی اللہ تعالیٰ نے ہماری اس چہری کے اندر بھی طاقت پیدا فرمادی، اور ایک جگہ ارشاد ہے يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ الْسِنَّتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ؛ کہ قیامت کے دن انسان کی زبان بولے گی اور انسان کے ہاتھ اور پیرا سکے کرتے توں کی گواہی دیں گے۔

انسان غلط ہنجی میں بنتا عنہ ہو

انسان یہ نہ سمجھے کہ میں نے کوئی گناہ یا کوئی نافرمانی کی تو اب اس کو میں اکیلا ہی جانتا ہوں میرے علاوہ دوسرا کوئی بھی نہیں جانتا، اور میں نے کر لیا ہو گئی بات، نہیں میرے بھائیو، یہ ہمارے تمام اعضا قیامت کے دن گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں پوری بات محفوظ ہے خدا تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ اس نے ہر چیز کو اپنے علم کے ذریعہ محیط کر لیا ہے ہر چیز کا اس نے احاطہ کر لیا ہے۔

جدید دور نے ہمیں سمجھا دیا ہے

ہم ذرا دنیا کے اندر دیکھیں۔ اور دیکھو جتنا زمانہ ٹکنا لو جی کی طرف آگے بڑھتا جا رہا ہے اتنا ہمارے لئے آخرت کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے آپ ائیر پوت پراتریں اور ذرا بورڈ کے بٹن کو کلک کریں برسوں کے برسوں کاریکار ڈاس کے اوپر آجائے گا جب ایک مخلوق کے ہاتھ سے بنایا ہوا کمپیوٹر برسہا برس اور پوری دنیا کاریکار ڈاپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے تو کیا اللہ رب العزت حکم الخاکین کے پاس اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ ازل سے لیکر ابد تک آنے والے تمام انسانوں کے اعمال کو محفوظ کر سکے اس کا صاف اعلان ہے آج تراویح میں جو آخری رکوع پڑھا گیا اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی عقیدہ کو سمجھایا کہ، أَللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثَى وَمَا تَغْيِضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَنْذَدِدُ۔ مرد نے اپنی بیوی سے ہمستری کی تو خدا تعالیٰ اسی وقت سے جانتا ہے کہ اس منی کے قطرہ کے ذریعہ کیا پیدا ہو گا لڑکا یا لڑکی؟ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں قرآن مجید کی

روشنی میں ہمارا یہ چلنچ ہے ابھی بھی ہم چلنچ کرتے ہیں کہ پہلے ہی دن، یا پہلے ہی مہینہ میں جب بچہ کا تجھ ماں کے پیٹ میں بویا گیا کوئی امریکہ کوئی آسٹریلیا کوئی برطانیہ ذرا یہ بتلا دے کہ اس نطفہ میں کیا ہے؟ لڑکا ہے یا لڑکی ہے قرآن ان کے سامنے چلنچ کر رہا ہے کہ تم نہیں بتلا سکتے۔

پانچ چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے

قرآن پاک نے پانچ ایسی حقیقتیں بیان کی ہیں کہ ان پانچ حقیقوتوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے جناب نبی اکرم ﷺ نے جبریل امینؑ کے سامنے صاف جواب دیدیا تھا کہ مجھے بھی اس کا علم نہیں ہے اور ایسی پانچ چیزوں ہیں کہ جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ خَمْسُ مُغِيَّبٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ، قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قیامت نزدیک ہے، قیامت نزدیک ہے ابھی تو قیامت دور ہے دنیا کو بہت سے فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے اور دوسرے نمبر پر بارش کا علم، اور مادر حرم میں کیا ہے انسان کل کیا کرے گا اور انسان کہاں مرے گا ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔

علاماتِ قیامت تین طرح کی ہیں

قیامت کی علامتوں کی تین قسمیں ہیں بعض علامتیں وہ ہیں جو گزر گئی ہیں ختم ہو گئیں بعض علامتیں وہ ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں یعنی جو چل رہی ہیں اور بعض علامتیں وہ ہیں جنکا آنا بھی باقی ہے وہ بڑی علامتیں یہ ہیں اور ان بڑی علامتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے ایمانی بھائیوں کی حفاظت فرمائے امین۔ لیکن قیامت کب

واقع ہوگی؟ اور کب آئیگی؟ کیسے آئیگی؟ کس دن آئیگی؟ اسکا کسی کو علم نہیں ہے وہ تو کچھ قرآن سے بتایا گیا ہے کہ جمعہ کا دن ہو گا نسانی شریف میں جمعہ کا بیان ذکر کرتے ہوئے امام نسائی نے جناب نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد نقل رشاد فرمایا کہ ہر جمعہ کو صبح میں تمام جانور زور زور سے چلاتے ہیں۔

اور وہ اس لئے کہ جانوروں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے انہیں خطرہ رہتا ہے کہ کہیں آج وہ جمعہ تو نہیں ہے جس جمعہ کو قیامت واقع ہوگی وہ چونکا ہیں، اور یہ انسان غفلت میں ہے دیکھو جانور تک کو خطرہ رہتا ہے جانور بھی اس کے لئے بیدار رہتا ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ آج قیامت قائم ہو جائے اور انسان اس حقیقت کو بھول چکا ہے کہ میرے ہر عمل کو میرے ہر قول کو اور میری ہر بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ ارشاد فرمایا کہ، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كَرَأَ مَا كَاتَبَتِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ایک ایک بات وہ لکھتے ہیں اور ایک ایک بات کا ریکارڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لیجاتے ہیں جیسا کہ آپ بارہ سنتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی شان رحمی

میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کتنا ہم بان ہے اور اسکی شان رحمی کس قدر وسیع ہے حدیث میں فرمایا کہ آدمی کے سید ہے طرف بھی ایک فرشتہ ہے اور باہمیں طرف بھی ایک فرشتہ ہے جب آدمی کوئی نیک کام کرتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ فوراً اس کو لکھتا ہے اور جب آدمی کوئی گناہ کا کام کرتا ہے باہمیں طرف والا فرشتہ لکھنے کیلئے قلم اٹھاتا ہے تو دائیں طرف والا کہتا ہے کہ (stop) ابھی رک جاؤ ملت کھو تیری محنت

بیکار جائیگی اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جس کا گناہ تو ابھی لکھ رہا ہے اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے اور وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ تجھے حکم دیدیں گے کہ تو ریکارڈ میں سے گناہ کو مٹا دے، ذرا تھوڑا رک جا اللہ رب العزت کتنا فضل فرماتے ہیں کہ نیکی کو فوراً لکھ دیا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شانِ رحیمی ہے۔

اللہ تعالیٰ حمل کو بھی جانتا ہے

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ، **أَللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثَى هُرُودٌ حُورَتُ جُو حَالَهُمْ** (Pregnency) ہوتی ہے اس کے یہاں کیا جنم لینے والا ہے اور پیٹ میں کیا پل رہا ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کو جانتے ہیں، **وَمَا تَغِيِّضُ الْأُرْحَامُ** اور خدا تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہوتا ہے کہ کس کا حمل گر جائے گا کسی کا چھ مہینہ میں کسی کا سات مہینہ میں حمل ساقط ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہوتا ہے۔

وَمَا تَزَدَادُ؛ اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ دو بچے (Twince) پیدا ہونے والے ہیں یا پھر کتنے پیدا ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ ایک بیج میں نے بویا لیکن جیسے کہ انسان دنیا میں ایک بیج بوتا ہے، اور اسکے ذریعہ کئی سو بیج اور دانے نکلتے ہیں ایسے ہی حق تعالیٰ شانہ بھی کبھی کبھی انسان کے ایک بیج کے ذریعہ کئی کئی بچہ پیدا فرمادیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔

اولاد کی پیدائش کیلئے موثر نسخہ اور واقعہ

بروڈہ میں ہمارے ایک دوست تھے اس کی شادی (marriage) کو آٹھ سال (years) ہو گئے تھے اور ان کو کوئی اولاد ہی نہیں تھی اٹھارہ سال تک ان کو کوئی اولاد نہیں ہوئی، ان کو قرآن مجید کی ایک آیت بتلائی گئی آپ کو بھی بتلا دیتا ہوں اگر کسی کو اولاد نہ ہو تو اس آیت کا ورد کریں ہر ایک کو اولاد کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے ہر ایک چاہتا ہے کہ اسکے یہاں نیک اولاد پیدا ہو، لوگ اس کے لئے دعائیں کرواتے ہیں بہر حال قرآن پاک نے ایک نبی کی زبانی یہ دعا سکھلائی آدمی کو یہ دعا کرنی چاہئے اور وہ دعا یہ ہے کہ، رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرْيَةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ بہت مختصر مگر بڑی جامع دعا ہے۔

ایک نبی کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، کئی برس گزر گئے انہوں نے محراب میں کھڑے ہو کر یہ دعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ بچہ بھی وقت کا نبی ہوا انہوں نے یہی دعا فرمائی تھی کہ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرْيَةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ، اَللَّهُمَّ مِنْ نیک اولاد نصیب فرمائیے آج ہم لوگ تو صرف یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اولاد نصیب فرماء، یہ دعا مانگنی چاہئے کہ اے اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائیے نبی نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بھی بتایا اور وہ نبی کی دعا قرآن پاک کو اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک قرآن مجید میں اس کو جگہ مل گئی۔ اب ہمارے اس دوست نے وہ دعا پڑھنی شروع کی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ساتھ تین بچے عطا فرمادیئے اور اس ترتیب سے

اس کا فیصلہ بھی برابر ہو گیا کہ آٹھ سال میں تین بچے برابر ہیں تو اللہ تعالیٰ جب دینے پر آتا ہے تو چھپر چھاڑ کر دیتا ہے اور یہ بات زیادہ قابل تجھب ہے کہ ان تین بچوں میں دو لڑکے اور ایک لڑکی ہیں تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے یہاں دودھ کا انتظام پورے طور پر ہو رہا ہے یا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کمزوری کے باوجود میری بیوی کو اتنا دودھ دیا ہے کہ تینوں بچے سیر ہو کر پی لیتے ہیں اور اب تو وہ بچے بڑے بڑے بھی ہو گئے اور اسکول و مدرسہ میں جانے بھی لگ گئے۔

ہمیں ناامید ہونے کی ضرورت نہیں ہے

اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کا یہی حال ہے میرے بھائیو، ایک بات اور ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہمیں ناامید ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا کوئی کام وقت پر نہیں ہوتا ہے تو ہم اس سے ناامید ہو جاتے ہیں لیکن جو ہمیں نہیں مل پایا ہے ہمارے لئے اسی میں فائدہ ہوتا ہے دیکھئے نبی کی دعا بھی قبول ہونے میں دریگی ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ ظہر میں دعا کی اور عصر میں اس کا رزلٹ مانگتے ہیں ہم تو بہت جلد بازی کرتے ہیں قرآن کا صاف اعلان ہے؛ عَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بہت ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو، اور وہ چیز تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، اور اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ چیز تمہارے حق میں بہتر ہے یا نہیں؟ اس لئے وہ چیز عطا نہیں ہوتی، اسی لئے یہ اعلان کر دیا کہ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ، کبھی کبھی ہماری تمنا ہوتی ہے کہ فلاں چیز ہونی چاہیے، ہمیں اس میں فائدے نظر آتے ہیں لیکن اس میں ہمارے لئے نقصان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کام نہیں

ہونے دیتا، اور بندہ یہ اعلان کرتا پھرتا ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی، نعوذ باللہ، حالانکہ اس میں خود بندہ کا نقسان ہوتا ہے اور وہ چیز نہ ملنے میں بندہ کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو اولاً داسی لئے نہیں دیتے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں کہ اولاد کی صحیح تربیت کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، یا اس کو اولاً دمہنگی پڑ گی، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے جتنا ایک ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے اس سے کئی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ سے محبت کرتے ہیں خدا تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے جو فیصلہ کرتے ہیں وہ بالکل صحیح فیصلہ ہوتا ہے۔

نبیوں کی دعا قبول ہونے میں بھی دریگی

دنیا میں انسان کو یوں لگتا ہے کہ میرے حالات ایسے کیوں ہو رہے ہیں حضرت موسیٰ و ہارونؑ نے بھی فرعون کے مغلوب ہونے کے لئے بد دعا کی تھی وہ دعا جلدی قبول نہیں ہوئی، اس کا بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے ہم لوگ جلد باز بن گئے، چار دن میں دعا قبول نہیں ہوئی تو نا امید ہو جاتے ہیں ایک عورت مجھے بھارت میں ملی وہ کہنے لگی کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوں (نعمہ باللہ) میں نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ میں تین سال سے دعا کر رہی ہوں کہ میری بچیوں کا رشتہ ہو جائے اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہے تو میں بھی اس سے ناراض ہوں، اب یہ حال تو ہمارا ہے، ہم جلد بازی کرتے ہیں حضرت نوحؐ نے اپنی قوم کو نوسو پچاس سال تک دعوت دی تھی انہوں نے کیسا صبر کیا ہوگا، ہم اپنے بچے کو دو چار دن سمجھانے کے بعد تھک جاتے ہیں ہم اپنے سماج میں کسی کو نماز کی دعوت چار پانچ بار دینے کے بعد تھک جاتے ہیں کہ بھائی جانے دو،

وہ نماز کو نہیں آتا ہے۔ یہ نظر یہ غلط ہے حضرت نوحؐ نے نوسو پچاس سال تک دعوت دی اس کے باوجود وہ تھکے نہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ آنا تھا وہ آیا اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہونا چاہئے، کُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ؛ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقدار کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کا ایک جزو ہے، وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا حَزَرًا إِنَّهُ، اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک خاص مقدار کے ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ کس کو کتنی روزی دینی چاہئے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے؛ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا حَزَرًا إِنَّهُ؛ ہر چیز کا خزانہ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔

دو بیٹوں کے فرق میں خدا کی قدرت

ایک ساتھ ایک باپ کے دو بیٹے اسکوں جاتے ہیں ایک میڈیکل میں تعلیم حاصل کرتا ہے اور دوسرا ڈھور کے ڈھور رہ جاتا ہے، آپ بتائیے کہ کیا دونوں کو الگ الگ پانی پلا یا جاتا ہے؟ کیا دونوں کو الگ الگ کھانا کھلایا جاتا ہے؟ نہیں بلکہ دونوں کا تھج ایک ہے، دونوں کی خوراک بھی ایک ہے اور دونوں ایک ہی اسکوں میں پڑھتے ہیں لیکن، وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا حَزَرًا إِنَّهُ، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا علم ہے کس کو کتنا علم دینا چاہئے اور کس کو کتنا مال دینا چاہئے کس کو کتنی صلاحیت دینی چاہئے اور کس کو کتنی قابلیت دینی چاہئے اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے اسی کو فرمایا کہ، وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں اور وہ ہماری مصلحت کے مطابق ہی کرتے ہیں بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ بندہ کبھی کبھی دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے یہ

نصیب فرما مجھے یہ نصیب فرما لیکن وہ چیز اس کی مصلحت کے خلاف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو نصیب نہیں فرماتے ہیں لیکن اس نے جو دعا کی ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو رائیگاں بھی نہیں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لئے اپنے یہاں جمع فرمادیتے ہیں اور پھر قیامت کے دن اس کی اس دعا کا اجر و ثواب اس کو دیا جائیگا۔

اللہ ہی سے ڈریں

میرے بھائیو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، ایک ایک قدم ہمیں پھونک پھونک کر رکھنے کی ضرورت ہے آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ بات کرتے وقت کہتے ہیں کہ ذرا آہستہ بولو، اس لئے کہ دیوار کو بھی کان ہوتے ہیں، ہم دیوار سے تو ڈرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہیں، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے بھی کان ہیں جیسے بھی ہو، اسکے شایان شان، ہم کبھی کسی سے بات کرتے ہیں تو دائیں اور بائیں دیکھتے ہیں کہ کوئی جاسوس (Cid) ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ زمانہ تو اس کا ہی کا چل رہا ہے لیکن کبھی اس بندہ مومن نے یہ نہیں سوچا کہ خدا تعالیٰ کے بھی فرشتے ہر وقت ہمارے پاس چوبیں گھنٹہ موجود ہیں۔ اور اس نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ میں نے جاسوس بھیجے ہیں اور اس کے فرشتے دھوکہ بھی نہیں کھا سکتے، اور اس کی یہ قدرت ہے؛ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنَّ تَزُوَّلَا وَلَئِنْ زَأْتَنَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ؛ اور اس کا یہ اضافہ ایسا ہے کہ کبھی ان کو بھوک نہیں لگتی ہے فرشتوں کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، اور نہ ان کو پینے کی ضرورت ہے وہ فرشتے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے یہاں محفوظ کرتے ہیں یہ عقیدہ ہمیں اپنے دماغوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔

غفلتِ مومن کیلئے موت ہے

بعض بزرگوں نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ جو آدمی آخرت کا انکار کرتا ہے اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی غفلت میں گزرنی ہوئی ہوتی ہے ورنہ ایک عقلمند آدمی کبھی اس طرح کا فیصلہ نہیں کر سکتا اس کی عقل نہیں کہہ سکتی کہ جیسی میری زندگی ہو گی گزر جائے گی اور پھر کوئی بدلہ لینے والا نہیں ہے ایسا اس کا دماغ نہیں کہہ سکتا لیکن ایک آدمی جان بوجھ کر آخرت کا انکار کرتا ہے یہ سمجھ کر کہ اس کو اسلام قبول کرنے کے بعد بڑی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی وہ تو بڑی خطرناک بات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ امین، ایک طالب علم جس کو پڑھنا ہی نہیں ہے وہی امتحان کا انکار کرتا ہے یعنی وہ امتحان کا تصور اپنے ذہن میں لاتا ہی نہیں، اسی طرح جس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہی نہیں رہتا ہے وہ بھی آخرت کے تصور کو ذہن میں ہی نہیں لاتا ہے۔

اصل پیغام

ہمیں اصل یہ پیغام دینا ہے میرے بھائیو!! ہم اس بات کو اپنے قلب و دماغ میں بٹھائیں کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ برابر اس کو منضبط کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ ہمارے حالات سے بھی اچھی طرح واقف ہیں **عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَةُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالُ** اور آگے اس نے ایک اور مضمون کو کھولا ہے، **سَوَآءٌ مَنْ كُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِي بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ** : ہمارے لئے تو دن اور رات میں کئے جانے والے

اعمال میں فرق ہے آدمی کے پاس کوئی کام آتا ہے تو وہ اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کام رات میں کرنا ہے یادن میں کوئی مخفی کام ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اس کام کورات میں کریں گے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے لئے تو دونوں برابر ہیں چھپ کر کرو، یا کھل کر کرو، مجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ساتوں دروازے بند کر کے اگر کوئی اس میں کام کرتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، وجہ اسکی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عالم ہر چیز کو محيط ہے۔

مہلک بیماری سے بچنے کی دعا

ابوداؤ دشیریف کی روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے صحابہ کرامؓ کو ایک دعا بتائی، کہ جو شخص بھی صبح فجر بعد اور اور مغرب بعد تین دفعہ یہ دعا پڑھے تو اس کو کوئی مہلک بیماری نہیں لگنے پائے گی اور وہ دعایہ ہے۔ **أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الْتَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ**: یہ دعا فجر اور مغرب بعد تین تین دفعہ پڑھے نماز کے بعد، بغیر نماز کے نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیگا۔

اثر کا دار و مداریقین پر ہے

اور میرے بھائیو۔ اس پر ہمیں یقین بھی ہونا چاہیے اس لئے کہ یقین بہت بڑی دو اہے سب سے بڑی دو ایسی یقین ہے اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں کہ آپ کو کسی ڈاکٹر پر یقین ہے اس پر اعتماد ہے تو آدمی بیماری اس یقین کے ذریعہ ہی ختم ہو جاتی ہے، آپ اس مریض کو کسی بھی دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اس کی بیماری میں

افاق نہیں ہوگا اگرچہ کہ دوسرے ڈاکٹر بڑی ڈگری والے ہوئے اور وہ اسکواچھی سے اچھی دوادینگے مگر اس کی بیماری اچھی نہیں ہوگی۔

لیکن آپ اس کو اسی ڈاکٹر کے پاس یجا میں جس پر اس کو اعتماد حاصل ہے اگرچہ وہ ڈاکٹر کمزور ہے لیکن جیسے ہی آپ اس کے چمپیر میں داخل ہو گئے تو آپ کی آدمی بیماری وہیں پر اچھی ہو جائیگی، اور اسکی وجہ یہی یقین ہے یقین سے آدمی بیماری ختم ہو جاتی ہے تو قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں بتائی ہوئی دعا کے لئے بھی یقین کی ضرورت ہے اسلئے کہ یقین سب سے بڑی طاقت ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ : کہ یقین والوں کے لئے اس میں شفا اور رحمت ہے اور بعض حضرات نے تو مونین کا ترجمہ یہاں پر یقین کرنے والوں سے کیا ہے میرے بھائیو۔ غیر موننوں کو اس پر یقین ہوتا ہے اسی لئے انکو بھی اسکے ذریعہ شفاء حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس قرآن پاک کے ذریعہ شفاء عطا فرمادیتے ہیں۔

ایک صحابیؓ کا واقعہ

ایک صحابیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے یہ دعا پڑھ کر روزانہ اس کا اور دشروع کیا ایک دن اتفاق سے میں اس دعا کو پڑھنا بھول گیا تو مجھ کو فالج ہو گیا فالج والا شخص حرکت نہیں کر سکتا ہے وہ بستر پر لیٹے لیٹے ہی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی مہلک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے امین۔ بہر حال کچھ لوگ ان کی بیماری پر خبر پرسی کو گئے اور توجہ کے ساتھ ان کو دیکھتے رہے ان کا آدھا حصہ فالج ہو گیا

تھا انہوں نے فرمایا کہ تم مجھے تجھ سے مت دیکھو میں آج صحیح آپ ﷺ کی بتائی ہوئی دعا پڑھنا بھول گیا تھا جس کے نتیجہ میں یہ بیماری مجھ کو لاحق ہو گئی ان کو کتنا یقین تھا تو ہمیں بھی یقین کی ضرورت ہے اس کے بغیر ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو گا۔

اللہ تعالیٰ حفاظت فرمار ہے ہیں

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری حفاظت کے لئے فرشتے مقرر ہیں آپ دیکھتے دنیا میں اللہ تعالیٰ کیسے ان لوگوں کی حفاظت کر رہا ہے میری باتوں کو اشاروں میں سمجھتے رہنا کہ ساری دنیا کی سیٹ لائے بعض لوگوں کو پکڑنے کے لئے تیار ہے ہر طرف سے ان پر کیمرے لگے ہوئے ہیں لیکن کیوں کسی بھی ملک کا کیمرہ ان لوگوں کی تصویر اور ان کو پکڑنے میں ناکام ہے؟ بات وہی ہے کہ فرشتے ہر طرف سے ان کی حفاظت کر رہے ہیں یہ تو بے وقوفی کی باتیں ہیں جو پرنٹ میڈیا اور الکٹرانک میڈیا کر رہا ہے کہ ہم نے ان کے جنازہ کو دیکھا اور انکی پتھری کا آپریشن ہوا تھا اس کو بھی ہم نے دیکھا ارے جب تم نے دیکھا تو پکڑا کیوں نہیں؟ جب اسکے اوپر اربوں اور کھربوں ڈال رانعماں رکھا ہوا ہے اور تمہیں اتناسب پتہ چل گیا تو تم نے انکو پکڑا کیوں نہیں۔ بات یہی ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا کہ :مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ؛ جو انسان اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں۔

جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا

حدیث میں کتنی صاف بات فرمائی کہ جو شخص بھی خدا تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اپنے آپ کو وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے اللہ کے دین پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو دنیا

کی کوئی طاقت اس کا بال بھی بانکا بھی نہیں کر سکتی، اور یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم جب ہجرت کے سفر کے لئے گھر سے باہر نکلے تو آپ ﷺ کے گھر کے ارد گرد چاروں طرف دشمن کھڑے تھے لیکن کیا ہوا؟ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ آپ ﷺ یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں، یہ یہی یقین کی طاقت ہے اور یہ فرشتوں کے ذریعہ حفاظت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بلا واسطہ حفاظت فرمانے پر بھی قادر ہیں لیکن چونکہ دنیادار الاسباب ہے اس لئے اس میں فرشتوں کے ذریعہ حفاظت فرمائی اور دنیا کا نظام اسباب پر موقوف ہے، اس لئے فرشتوں کے ذریعہ حفاظت فرمائی اسی بات کو سورہ انفال میں سمجھایا گیا۔

فرشتوں کے ذریعہ حفاظت فرمانے کی وجہ

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا تو بلا واسطہ (directly) فرشتوں کو اتارے بغیر تمہاری مدد کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعہ حفاظت فرمائی اس کی کیا وجہ ہے؟ اسکی وجہ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ؛ یہاں عقیدہ کو درست کیا گیا ہے قرآن پاک نے بہت قیمتی بات بیان فرمائی کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے اور کوئی تاریخ لکھنے والا یہ نہ لکھے کہ غزوہ بدرا میں تو مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی اور وہ تو فرشتوں کی وجہ سے جیت گئے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں؛ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؛ بلکہ ہم نے تو فرشتوں کو تمہاری تسلی کے لئے اتارا تھا اور تمہارے اطمینان کے لئے اتارا تھا باقی اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے

ہی اہل ایمان جیتے ہیں، نہ کہ فرشتوں کی وجہ سے، اور وہ بھی اس لئے کہ دنیا دار
الاسباب ہے اس لئے فرشتوں کا انتظام کرنا پڑا تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ تو بلا واسطہ حفاظت
کرنے پر قادر ہے مگر دنیا کے قاعدے کے اعتبار سے فرشتوں کے ذریعہ حفاظت
فرماتے ہیں۔

غفلت ہو تو شیطان کھیر لیتا ہے

میرے بھائیو۔ اللہ والے اعمال کرنے سے فرشتے خوش ہوتے ہیں اور اگر ہم نے غفلت کی زندگی بسر کی، تو پھر شیطان چاروں طرف سے گھر لیتا ہے اور فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں آدمی کی حفاظت نہیں ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اگر چوہا بھی ہلنے لگا یا ملکی بھی آواز آئی تو وہ ڈر نے لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اور ہمارے اسلام اور ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے، اور اپنی قدرت پر یقین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔۔۔ امین

وصلى الله وسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه جمعين

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

بسم الله الرحمن الرحيم

اقتباس

جو لوگ کسی فیکٹری، دوکان یا فارم میں کام کرتے ہیں، وہ اگر اپنے کام میں خیانت کریں تو ان کے لئے بھی عذاب ہے، وہ اپنی فیکٹری میں پہوچتے ہیں سات نج کر پھیس منٹ پر اور دستخط کرتے ہیں سات بجے کی، اور ان کا شام کوتین بجے روانہ ہونے کا وقت مقرر ہے، اور یہ لوگ تین میں دس کم پر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں مدرسہ میں پڑھاتا ہوں مدرسہ نے میرے لئے ایک وقت مقرر کیا ہے، صح سات سے گیارہ تک اور دو پہر میں تین سے سوا پانچ تک، اور مغرب سے عشاء تک، اور پھر عشاء کے بعد ایک گھنٹہ تکہ طلباء کی نگرانی ہو سکے کہ بچ پڑھ رہے ہیں یا نہیں، اب اگر میں مدرسہ میں پہنچوں سات بجکر دس منٹ پر، اور رجسٹر میں میں نے لکھا سات کا ثانِم، اور میں مدرسہ سے نکل رہا ہوں پونے گیارہ بجے اور میں نے لکھ دیا گیارہ بجے کا ثانِم مدرسہ کا مہتمم جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن قرآن پاک کی وعید میرے اوپر ثابت ہو گی۔

بسم الله الرحمن الرحيم

جزاء سیمات کسی قدر دنیا میں

بھی ملتی ہے

الحمد لله نحمدہ و نستعينہ و نومن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیمات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له و من یضلہ اللہ فلا ها دی لہ و نشهد ان لا اله الا اللہ وحده لاشريك له و نشهد ان سیدنا و مولا نا محمدًا عبدہ و رسولہ ارسلہ اللہ تعالیٰ الى کافہ الناس بشیرا و نذیرا؛ و داعیا الى اللہ باذنه و سرا جا منیرا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ و علی الہ واصحابہ و ازواجاہ و بارک و سلم تسليما کثیرا کثیرا؛ اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم .

مَنْ يَعْمَلْ سُوءً إِيْجَزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذالك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين؛

ایک غلط فہمی کا ازالہ

میرے بھائیو دوستو، اور بزرگو! اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دارا عمل

اور آخرت کو دارالجواب بنایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجالانے کی جگہ ہے، اور ماننے کی جگہ ہے اس کا پورا پورا اور صحیح صحیح بدله آخرت میں ملے گا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان دنیا کے اندر بداعمالیاں کرتا رہے، دنیا میں بربی زندگی گزارتا رہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہے اور اس کو دنیا میں کوئی سزا اور جزاء نہ ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، برے اعمال کا کچھ نہ کچھ بدله دنیا میں تھوڑا ہی سہی ضرور مل کر رہتا ہے، اور یہ بات قرآن پاک سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ :**ظَهِّرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبُتُ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقُهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا الْعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ، اللَّهُ رَبُّ الْعِزَّةِ انسان کے گناہوں کو اس کی بداعمالیوں کی کوئی نہ کوئی سزا کسی نہ کسی درجہ میں دنیا میں ضرور دیتے ہیں۔**

ہم اپناو ہم دور کریں

ہم اپنے اس وہم کو دور کر لیں کہ ہم دنیا میں گناہ کرتے چلے جائیں اور ہمیں اس کی کوئی سزا دنیا میں نہ ملے۔ انسانی عقل بھی اس کا انکار کرتی ہے کہ کائنات بوعی اور پھول کی امید رکھے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ کیکر کا درخت لگائے اور گلاب کے پھول کی امید رکھے، یہ نہیں ہو سکتا کہ بدبو پھیلائے اور خوبصورتی کی امید رکھے، میل کچیل کو پھیلائے اور صحت کی امید رکھے یہ نہیں ہو سکتا ہے؛ **أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ؟** کیا تم نے سمجھا کہ ہم نے تم کو بے کار پیدا کیا تھا من چاہی زندگی گزارنا چاہو گے، ہمارے احکامات کی خلاف ورزی کرنا چاہو گے اور ہم

تم سے کوئی بدل نہیں لیں گے یہ نہیں ہو سکتا حقیقی بدلہ اور پورا پورا بدلہ تو بے شک آخرت میں ہی ملے گا، لیکن دنیا میں انسان کی بدلی کا کوئی نہ کوئی بدلہ ملکر رہتا ہے۔

امم سابقہ کے واقعات

آج انیسویں پارے میں مسلسل کئی قوموں کے واقعات اور حالات سنائے گئے ہیں آخری چار پانچ رکعتوں کے اندر پہلی امتوں کے حالات سنائے گئے اور ہر امت کے حالات سنائے جانے کے بعد قرآن پاک نے نوٹس دی کہ، إِنْ فِي
ذَالِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُمْ مُوْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
یعنی کہ امم سابقہ کے احوال میں اے لوگو تمہارے لئے سامان عبرت ہے لیکن اس کے باوجود ان میں کے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں اور بے شک تیرارب غالب بڑی حکمت والا ہے۔

ہر تغیر سے صد آتی ہے فافہم فافہم

میں نے دوسرا مضمون سوچا تھا لیکن تراویح میں ذہن ادھر چلا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم کی حالت بیان کر کے بعد یہ نوٹس دیتا ہے کہ جو حالات میں سناتا ہوں قوم نوح کے، قوم عاد کے، قوم ہود کے، قوم ثمود کے، قوم شعیب کے، قوم لوط کے، جتنی بھی بڑی بڑی امتیں گزری ہیں، ان کے حالات قرآن مجید محمد رسول اللہ ﷺ کے واسطے سے سناتا ہے، اور ہر قصہ پر قرآن پاک ایک نوٹس دیتا ہے کہ إِنْ فِي ذَالِكَ لَا يَةٌ کہ اس قوم کے حالات میں انسانوں کے لئے عبرت ہے، اور دنیا میں آنے والے انسانوں کیلئے بڑا سبق ہے کہ اے گروہ انسانیت، ان واقعات کے ذریعہ عبرت حاصل

کرو، تم بھی ان کی طرح گناہوں میں مبتلا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہ عذاب آپڑے جوان کو ہلاک و خاکستر کرنے کے لئے آیا تھا۔

قوم نوح (علیہ السلام) پر دنیا میں عذاب

چنانچہ قرآن پاک نے حضرت نوحؑ کی قوم سے شروع کیا، حضرت نوحؑ کی قوم کے اندر بہت زیادہ نافرمانیاں تھیں اور حضرت نوحؑ ان کو مسلسل سمجھاتے تھے حضرت نوح نے نوسو پچاس سال تک ان کو سمجھایا ان کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کیا لیکن وہ قوم ایسی تھی کہ انہوں نے حضرت نوحؑ کی بات نہیں مانی حضرت نوحؑ کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سزا دنیا ہی میں چکھا دی، آخرت کی بات تو بعد کی ہے، میں نے بیان اس پر شروع کیا ہے کہ گناہوں کا بدلہ دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ مل کر رہتا ہے اس لئے آپ یہ سمجھیں کہ گناہوں کا بدلہ آخرت میں ہی ملے گا، نہیں میرے بھائیو، یہی بات تو میں آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی سزا دنیا میں بھی بھگلتی پڑتی ہے حق تعالیٰ شانہ نے حضرت نوحؑ کو فرمایا کہ تم اپنی قوم کو سمجھاؤ۔

کشتی بنانے کا حکم

حضرت نوح نے اپنی قوم کو سمجھایا قوم نہیں سمجھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ، وَاصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَغْيُنَا وَوَحْيِنَا کہ تم ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ، اور ہم جیسی کشتی کہیں ویسی ہی بناؤ اور دیکھو نوحؑ وَ لَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا کہ طالموں کے بارے میں مجھ سے سفارش مت کرنا۔ میں ان کے بارے میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا۔

ظالموں کیلئے صالحین کی دعا کا فائدہ نہیں

یہاں سے مفسرین نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب بھی کسی قوم نے اپنے آپ کو گنا ہوں میں ڈبوایا ہوتا ہے اور کسی کے سمجھانے سے نہ سمجھے تو اہل اللہ روکرو کر مرجا کیں، تہجد میں وہ اپنی ڈاڑھیاں ترکر لیں، اور اپنے آنسووں کا سمندر بہادیں اللہ تعالیٰ اس قوم کے حالات پر حرم نہیں فرماتے، پھر خانقا ہوں کے بزرگان دین، دعوت و تبلیغ کے علماء، مدارس اسلامیہ کے طلباء اور فضلاء اور دنیا کے اہل اللہ روکرو کر اپنے آنسووں کا سمندر بہادیں لیکن قرآن پاک نے حضرت نوحؐ کو جوبات کی تھی وہ اٹل فیصلہ ہے کہ وَلَا تُخَا طِبْنَى فِي الْدِينِ ظَلَمُوا بِكَه آپ ظالموں کے بارے میں میرے سامنے کوئی بات مت کرنا سفارش مت کرنا اس لئے کہ میرے یہاں فیصلہ ہو چکا ہے کہ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ؛ کہ ان کو غرق کرنا ہے۔

متقیٰ مومن ہی اہل رسول ہوتا ہے

حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ایمان نہیں لایا تھا حضرت نوحؐ نے شفقت پر ری میں اپنے بیٹے کے لئے سفارش کی اور فرمایا کہ اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میری بات نہیں مانا، لیکن ہے تو میرا ہی بیٹا، نبی کا بیٹا ہے، نبی کے نطفہ سے پیدا ہوا ہے، نبی کی تخت ریزی ہے، لیکن قرآن پاک نے کہا کہ: إِنَّهُ لَنِسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، کہ یہ تمہارا بیٹا دنیا کے اعتبار سے ہے لیکن ہمارے یہاں یہ تمہارا بیٹا شمار نہیں کیا جاتا اس لئے کہ اسکے اعمال صحیح نہیں ہیں یہاں سے مفسرین نے ایک بات یہ ثابت فرمائی کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ نسب کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اسلام کے اندر

نہ ہو، تو وہ اسلامی رجسٹری کے اندر اس کی اولاد نہیں مانی جائے گی اگر کوئی پرایا انسان ہے لیکن وہ اطاعت شعار ہے شریعت کا پابند ہے تو وہ حضور ﷺ کی اہل میں شمار کیا جاتا ہے اور اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ گُلُّ مُوْمِنٍ تَقِيٌّ : کہ ہر قسمی مومن مسلمان میری اولاد میں سے ہے اور میری اہل میں سے ہے، بہر حال حضرت نوح نے کشتی بنانا شروع کی، قوم نے مذاق اڑایا، قوم نے ٹھٹھا کیا، تحقیر کرنے لگے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانی کا ایسا سمندر بہا ایک ایسا سیلا ب امڈ پڑا جس نے سب کو ہلاک کر دیا۔

سورت کا سیلا ب حادثہ

ابھی ہم نے ماضی قریب میں ایک مہینہ پہلے ہی سورت کے سیلا ب حادثہ کے حالات سنیں اس سے پہلے بھی اور ملکوں کے کئی ایک اور دوسری جگہوں کے بھی حالات سنیں، وہ تھوڑے تھوڑے ڈیپ (Dames) کے دروازوں کو کھو لئے یا کھلوائے جانے کے نتیجہ میں (جو بھی پولکس رہی ہو) اور پانی چھوڑنے کے نتیجہ میں کروڑ پتی روڑ پتی بن گئے اور ایک ایک قطرہ آب کے لئے ترنسنے لگے۔ اور میرے بھائیوں وہ عذاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہو، اور اس عذاب نے زمین میں سے چشمتوں کو بہادیا ہو کیا حالت رہی ہوگی کہ پوری قوم تباہ و بر باد ہو گئی سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح پر ایمان لائے تھے، اور جن کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا، اور باقی لوگوں پر دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے عذاب اتنا را۔

قوم عاد کا تذکرہ

قوم عاد کون تھی؟ قرآن نے بھی مانا کہ وہ لوگ زبردست طاقت والے تھے کھڑے کھڑے پہاڑوں کو تراشتے تھے اور اس میں مکانات بناتے تھے اس زمانہ میں کوئی مشعری نہیں تھی وہ خود کھڑے کھڑے پہاڑوں کو تراشتے تھے، اپنے ہاتھ پہاڑوں پر مارتے تھے اور پہاڑوں کو چکنا چور کر دیتے تھے اور پھر ان پہاڑوں کے اندر عالی شان مکانات بناتے تھے۔ جو لوگ تاریخ کے ساتھ بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اور دنیا کی تاریخ پڑھتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں کئی پہاڑ ایسے ہیں جس کے اندر مکانات بننے ہوئے ہیں، کئی کئی آرٹ بننے ہوئے ہیں ہندوستان کے مہاراشٹر اسٹیٹ میں آپ جائیں اجنبیا اور ایلوورہ کی غاروں کو آپ دیکھیں گے، تو آپ حیرت میں رہ جائیں گے کہ ان لوگوں نے پہاڑوں کے اندر کس قسم کا کام کیا ہے جاپان اور امریکہ کے ریسرچ کرنے والے مستقل وہاں پہنچتے ہیں لیکن ایک مومن کے لئے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لئے کہ اس نے تو قرآن پاک کے اندر اس آرٹ کا تذکرہ پڑھا ہے کہ وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر اور پہاڑوں کو چاک کر کے گھر بناتے تھے، اور پہاڑوں کو چاٹ کر دو پہاڑوں کے درمیان راستہ بناتے تھے، لیکن باہر سے بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ پہاڑ ہے اور اندر مکانات بننے ہوئے ہیں۔

عاد کی ہائٹ

ایسی زبردست طاقت ان کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی ان میں کا ایک آدمی اتنا قد آور ہوتا تھا کہ وہ ہاتھ میں مجھلی لیکر کھڑا ہوتا تھا اور اس کو سورج کے قریب لے جا کر

سکھاتا اور کھا لیتا تھا، اس کو پھر گیس کی ضرورت نہیں، بقی کی ضرورت نہیں، ایسی زبردست طاقت والے تھے اور کہتے تھے کہ مَنْ أَشَدُّ مِنَا قُوَّةً هم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے دنیا میں ہم جیسا کوئی نہیں ہے مگر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔

طاقت عذاب الہی سے نہیں بچا سکی

لیکن ان کی طاقت نے انہیں نہیں بچایا نبی کی نہیں مانی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی اپنے وقت کے دعوت دینے والوں کی دعوت کو قبول نہیں کیا حق تعالیٰ شانہ نے انہیں زبردست عذاب میں پکڑا کہ آسمان سے ایک چیز آئی اور زبردست آواز آئی تو اس آواز کو سن نہیں سکے اور اس آواز کی سختی نے ان کے دماغ کے پرده کو پھاڑ دیا اور ان کا حال گول ہو گیا اور پھر وہیں کے وہیں ختم ہو گئے۔

قوم ثمود کا واقعہ

اس کے بعد نمبر آتا ہے قوم ثمود کا جن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالحؑ کو نبی بننا کر بھیجا تھا، حضرت صالحؑ نے بھی بہت سمجھایا کوئی کسر نہیں چھوڑی، جگرگردہ نکال کر اور دل کی ہمدردی اور جذبات کے ساتھ اس قوم کو صحیح رخ پرلانا چاہا لیکن اس قوم نے نہیں مانا، چلیج کیا کہ ہم آپ کوئی مانتے جب تک کہ آپ ہمیں کوئی مججزہ اور کوئی نشانی نہ دکھائیں حضرت صالحؑ نے فرمایا کہ میں تمہیں نشانی بتلاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جو نشانی مانگیں گے وہی نشانی چاہیے، فرمایا کہ نشانی بتلو، انہوں نے نشانی مانگی، مججزہ مانگا کہ فلاں پہاڑی کے اندر سے اونٹی کا بچہ نکال کر بتاؤ، انہوں نے متعین کیا

ہو امجدہ مانگا، حضرت صالحؐ کی سفارش اور مطالبہ پر اللہ تعالیٰ نے اُنٹنی کا بچہ نکالا لیکن یہ حکم دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر پیدا کیا ہوا ہے لا تمَسْوَهَا بِسُوءِ اسکو کوئی تکلیف مت پھو نچانا اور چونکہ از خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھاڑ میں سے پیدا ہوا ہے، اس نے اس کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت پڑے گی اس نے جس کنوں سے تم پیتے ہو، اور اپنے جانوروں کو پلاتے ہو تو ایک دن تمہارے جانوروں کے لئے معین، اور ایک دن اس کے پینے کے لئے معین رہے گا لیکن اس کو چھیڑنا مت۔

اللہ تعالیٰ کی قدرت

اور میرے بھائیو۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے میں کسی کام تاج نہیں ہے اس نے حضرت آدمؐ کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اس نے حضرت حواءؑ کو بغیر ماں کے پیدا کیا اس نے حضرت عیسیٰؑ کو بغیر باپ کے پیدا کیا اس نے ہر قسم کی چیزیں دنیا میں بغیر اسباب کے پیدا کی ہیں حضرت آدمؐ کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اس وقت کوئی نہیں تھا حضرت حواءؑ کو آدمؐ سے پیدا کیا آدمؐ حضرت حواءؑ کے باپ تھے لیکن ماں تو کوئی نہیں تھی حضرت عیسیٰؑ تو بی بی مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، والد محترم تو کوئی نہیں تھے، جو اللہ بغیر کسی سبب کے انسان کو پیدا کر سکتا ہے، پھاڑ میں سے اُنٹنی نکالنا اس کے لئے کیا مشکل ہے؟

پانی پینے کی باری

تو حضرت صالحؐ نے فرمایا کہ دیکھو یہ اُنٹنی پھاڑ میں سے نکلی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوئی ہے اس کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت پڑے گی، ہلہ ناقہ

لَهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمٌ مَعْلُومٌ، کہ تم لوگ جس کنوں کے اوپر سے پانی پینے ہو، اور جس حوض سے اپنے جانوروں کو پلاتے ہو تو ایک دن تمہارے جانور پیس گے، اور ایک دن اونٹنی پینے کی اس کوچھیڑ نامت، یہ اللہ تعالیٰ کا مجزہ ہے جو مجھے دیا گیا، لیکن جو قوم بغاوت سرکشی اور بدمعاشی پر اتر آتی ہے تو پھر اسے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ جب کسی قوم کی تقدیر میں ایمان لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے تو آپ اس کو کروڑوں مجزے کروڑوں کرامتیں کروڑوں نشانیاں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کتنے ہی کر شئے دکھاؤ، وہ ایمان نہیں لاتے ہیں قرآن پاک نے صاف ارشاد فرمادیا کہ، وَإِن يَرَوْ كُلَّ أَيَّةٍ لَا يُوْمُنُوا بِهَا، کہ جب کسی قوم پر ٹھپہ لگایا جاتا ہے اور کسی قوم کی تقدیر کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں، تب بھی وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔

اونٹنی کا قتل اور عذاب الہی

چنانچہ ایک دن وہ اونٹنی پانی پینے کے لئے اس حوض یا کنوں پر گئی، قوم نے ایک شخص کو اس سایا اور اس نے اونٹنی کے کوچے کاٹ ڈالے اس کے پیر کاٹ ڈالے اللہ کی اس اونٹنی کو قتل کر دیا جس کو بنَّا قَةُ اللَّهِ: کہا جاتا تھا، جو مبارک مجزہ تھا، حق تعالیٰ شانہ نے اس قوم کو زبردست قسم کا عذاب دیا کہ پوری زمین ہل گئی، زلزلہ آگیا ایک منٹ اور سکنڈ کے اندر پوری قوم ہلاک ہو گئی، فَعَقَرُوْ هَا فَاصْبَحُوا نَادِيَمِينَ، اب پچھتا نے لگے لیکن جب چک گئی چڑیا کھیت ہے پھر پچھتا نے کیا ہوت ہے۔ اس وقت پچھتا نے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پانی بہہ جانے کے بعد تالاب (Dame) بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عقلمند انسان تو پانی آنے سے پہلے ہی تالاب بناتا ہے وہ انتظار

نہیں کرتا کہ پانی آئے گا اس کے بعد میں اس کا انتظام کروں گا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نیست و نابود کر دیا انکی طاقت نے ان کو کچھ فائدہ نہیں پہنچایا۔

حضرت لوطؑ کی قوم کا واقعہ

اس کے بعد حضرت لوطؑ کی قوم کا تذکرہ ہے جس نے ایسی فحش غلطی کا ارتکاب کیا کہ روئے زمین پر کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا جس کو کہتے ہیں ہم جنسی کا مرض، ان کا مرد مرد کے ساتھ بد کاری کرتا تھا ایک دوسرے کے ساتھ بد کاری کرتے تھے حضرت لوطؑ نے ان کو خوب سمجھایا، وہ لوگ نہیں مانے اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا ایسا عذاب کہ پوری زمین کو اوپر اٹھالیا اور اوپر سے نیچے ٹیخنے لیا گرا دیا، اور پھر ان کے اوپر نشان زدہ پھر بر سائے جس کے نتیجہ میں وہ قوم پوری کے پوری ہلاک ہو گئی۔

قوم شعیبؑ کا واقعہ

اس کے بعد حضرت شعیبؑ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے سمجھایا کہ اے لوگو تم اللہ کو ایک مانو اور ناپ توں میں کمی مت کرو حضرت شعیبؑ کے زمانہ میں بُنْس میں لوگ زیادہ تھے اس لئے حضرت شعیبؑ نے فرمایا کہ؛ أَوْفُوا الْكِيْلَ وَ لَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَ زُنُوا بِالْقِسْطَاءِ إِنَّ الْمُسْتَقِيمَ، وَ لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَ لَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ جب تم لوگ کوئی ناپ توں کرو اور گن کر کوئی چیز دو تو اس میں کمی مت کرو آخری درجہ میں اتنا دو جتنا اس کا حق بتا ہے اس میں کمی مت کرو، اور اگر تھوڑا زیادہ

دو تو بہتر ہو گا، کوئی نقصان نہیں ہو گا، لفظ میں تھوڑا نقصان نظر آئے گا، لیکن اسلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے تم کرو گے تو اسکیں تمہارے لئے برکت ہی برکت ہے اس لئے کہ آپ ﷺ نے فرمایا، ذِنْ وَارْجِحَةُ جَحْكَتَنَا پَتْلُو، اور اگر زیادہ نہیں دینا ہے تو اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا اِمِّنَ الْمُخْسِرِينَ : کتم ڈنڈی مت مارا کرو، برابرو زن کر کے دو، مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ اس زمانہ میں تو اور زیادہ خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، اس لئے کہ اس زمانہ میں الکٹرائیک ترازو آچکے ہیں وہ کئی غلطیاں (Mistake) کر دیتے ہیں کمپیوٹر کی دنیا میں غلطی ہو جاتی ہے ایک مسلمان تاجر اور بنس میں کے لئے ضروری ہے کہ وہ صحیح تولیں۔

نَابَتْلُو میں کمی پر وعید

لیکن ہمارا حال یہ کہ جب ہماری دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مار کر دینتے ہیں اور جب لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا لیتے ہیں ایک پیسہ بھی اگر کم ہے تو ہم نہیں لیتے، قرآن نے ایسے لوگوں کے لئے بددعا فرمائی ہے قرآن نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے ارشاد ہے؛ وَيُلِّ لِلْمُطَفَّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفِونَ وَإِذَا كَأْلُوْهُمْ أُوْرَزُنُوْهُمْ يُخْسِرُونَ لَا يَظْنُنُ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُثُوْنَ، کہ ڈنڈی مارنے والوں کے لئے ہلاکت ہے اور ڈنڈی مارنے کا مطلب صرف بنس میں لوگوں کے لئے ہی نہیں ہے بلکہ اس آیت کریمہ کے حکم کے تحت وہ تمام افراد داخل ہیں جو کسی سے لین دین کا معاملہ کرتے ہوں اور اسکیں کوتا ہی کرتے ہوں وہ بھی اس وعید میں داخل ہیں۔

ڈیوٹی میں کوتا، ہی مت کرو

بلکہ آپ ذرا سنتے، اور مجھے معاف بھی کہجئے گا، لوگ کسی فیکٹری دوکان اور کسی فارم میں کام کرتے ہیں وہ بھی اگر ڈنڈی مارتے ہو نگے تو ان کے لئے بھی عذاب ہے اور وہ کس طرح؟ اور ان کے ڈنڈی مارنے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی فیکٹری میں پہلو نچتے ہیں سات نج کرچیس منٹ پر، اور دستخط کرتے ہیں سات بجے کی، اور ان کا شام کوروانہ ہونے کا وقت تین بجے مقرر ہے، اور یہ لوگ تین میں دس کم پر وہاں سے نکل جاتے ہیں مثال کے طور پر میں مدرسہ میں پڑھاتا ہوں مدرسہ نے میرے لئے ایک وقت مقرر کیا ہے، صحیح سات سے گیارہ تک اور دو پھر میں تین سے سوا پانچ تک، اور مغرب سے عشاء تک، اور پھر عشاء کے بعد ایک گھنٹہ تاک طلباء کی نگرانی ہو سکے کہ بچے پڑھ رہے ہیں یا نہیں، اب اگر میں مدرسہ میں پہنچوں سات بجکر دس منٹ پر، اور رجسٹر میں میں نے لکھا سات کا ٹائم، اور میں مدرسہ سے نکل رہا ہوں پونے گیارہ بجے، اور میں نے لکھ دیا گیارہ بجے کا ٹائم، مدرسہ کا ہتمم جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن قرآن پاک کی وعید میرے اوپر ثابت ہوگی۔

اسلئے جو لوگ ٹائم کے اعتبار سے کام کرتے ہیں (اور آپ کی کنٹری میں تو ٹائم کا ہی زیادہ کام ہوتا ہے) تو ان کو برابر اپنے وقت کا خیال رکھنا چاہیے، ہاں اگر کوئی اپنی خوشی سے کہتا ہو کہ ٹھیک ہے بھائی تم کو میری طرف سے اتنے منٹ کی رخصت، یا رمضان کا مہینہ ہے ہم تم کو اپنی طرف سے اتنے منٹ کی رخصت دیتے ہیں تو یہ بات اور ہے۔

آپ ﷺ کی پیشین گوئی

بہر حال تاجر حضرات (Buisnessman) کے لئے کسی کا حق ادا کرنے والے کے لئے جناب نبی اکرم ﷺ نے اپنے زمانہ ہی میں بہت پہلے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ:- **إِنَّكُمْ سَتَرُونَ بَعْدِي أَثْرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا** یہ حدیث بہت جامع ہے، حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ تم میرے بعد ایک ایسا زمانہ دیکھو گے کہ ہر آدمی اپنی ہی فکر میں لگا ہوا ہو گا ہر ایک کی یہی سوچ ہو گی کہ میری ہی دنیا بن جائے اور دوسروں کی دنیا اجر جائے میرے سیٹھ (Boss) کا نقصان ہوتا ہو تو ہو، میری فیکٹری جہاں میں کام کرتا ہوں اس کا نقصان ہوتا ہو، لیکن میرا بیٹ بھرنا چاہیے خود غرضی کا دور آجائے گا اور ایسے حالات آئیں گے جن کو تم ناپسند کرو گے۔

اس دور کا حل بھی ارشاد فرمایا

صحابہ کرامؓ کو معلوم ہی تھا کہ وہ زمانہ ہمارے دور میں آنے والا نہیں ہے ہمارے لئے سوال کر لیا کہ اللہ کے رسول ﷺ اگر ایسا دور آجائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے حضور ﷺ نے فرمایا کہ، **تُؤْذُونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهُ الَّذِي لَكُمْ** : آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایسا وقت تم پر آجائے تو تم میں سے ہر ایک اپنے اوپر کا حق ادا کرے اور دوسرا تمہارا حق ادا کرتا ہے یا نہیں اس کی فکر نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ مجھ پر جو حق ہے میں اس کو ادا کروں، اب دوسرا میرا حق ادا کرتا ہے یا نہیں، میں اس کو دیکھنے بیٹھوں گا تو میں اپنی جانب سے ادا کئے جانے والے حق میں بھی ڈنڈی ماروں گا۔

قوم شعیب پر عذاب الہی

حضرت شعیبؑ نے دعوت چلائی کہ تم ناپ توں پورا کرو، ڈنڈی مت مارو، اور زمین میں فساد مت مچاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈر لیکن اس قوم نے بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی زبردست قسم کے زلزلہ میں مبتلا کر دیا اور دنیا سے تہس کر دیا یہ تمام قوموں کے واقعات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ۔

جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ

جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ

اسی لئے ان واقعات کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فی ذالک لائیۃ کہ ان واقعات میں عبرت ہے کہ دنیا ہی میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے۔

داعی کے لئے اہم سبق

یہاں ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ایک داعی ایک مقرر اور ایک مبلغ کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ قوم میں جو بیماری ہو، اس بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرے، قوم کے اندر جو بعملی پائی جا رہی ہو، اس کو دور کرنے کی وہ کوشش کرے یہ اس کی ذمہ داری ہے ہر نبی نے دعوت تبلیغ کے کام میں سب سے پہلے تو حیدر کی دعوت دی اور پھر اس کے بعد ان کی قوم میں جو برائیاں اور بد اعمالیاں عام تھیں، اس کو انہوں نے توڑا، اس کو ایک مثال سے یوں سمجھنے کے ملیریا کا دور چل رہا ہو، اور کوئی ٹائیفنا ڈنڈ کی دوادے یہ دوا تو نقصان کرے گی، اور اگر یقان کا دور چل رہا ہو جس کو کہ پیلیا کہا جاتا ہے جس میں بدن

پیلا پیلا ہو جاتا ہے اور اسکیں اگر کوئی میریاء کی دوادے تو یہ نقصان کرے گی جیسی بیماری اسی قسم کا علاج ہرنبی نے کیا ہرنبی نے پہلے توحید کی دعوت چلانی آپ انیسویں پارے کے اندر پڑھ چکے ہیں ہر رکوع کے اندر آیا کہ إِنَّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اس کے بعد ہرنبی نے اپنی آپیشیل دعوت چلانی۔

ماں باپ کے نافرمان کو سزا

بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ ان کو دنیا ہی میں سزا مل جاتی ہے اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اور ماں باپ کو ستانے والا اس وقت تک مرتا نہیں ہے جب تک کہ اس دنیا میں ہی اس کو اسکی سزا نہ مل جائے غور کرنا چاہیے خاص طور پر ان لوگوں کو جو شادی (Marriage) کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی زندگی چینچ کر دیتے ہیں اور اپنے ذہن کو بھی چینچ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح عمل کرنے والا بنائے، اور ہم لوگوں کو ہر ایک کا حق اسکے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جب تک سزا نہیں بھگتا ہے اس کی موت نہیں آتی۔ شرک کرنے والے کو بھی سزا ملتی ہے زنا کرنیوالے کو بھی موت سے پہلے ہی سزا ملتی ہے بات وہی ہے کہ گناہوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے کسی نہ کسی طریقہ سے دیتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ سزا فوراً ہی ملے۔

بِدْنَظْرِيِّيْ کی سزا بیس سال بعد ملی

لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہم کو تو کوئی بدل بھی نظر نہیں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایمر جنسی بدله لے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں تجھ بھوگا کہ حضرت جنید بغدادیؒ کے ایک شاگرد تھے اتنے بڑے شیخ قطب الاقطاب اور شیخ العارفین تھے ان کے پاس پڑھنے والا ان کا ایک شاگرد حافظ قرآن تھا اس نے ایک مرتبہ بدنظری کر لی، کسی عورت پر غلط نظر اٹھائی، بیس سال کے بعد اس کی سزا یہ ملی کہ وہ قرآن پاک کو بھول گیا بیس سال کے بعد یہ سزا دی گئی دیکھو اللہ تعالیٰ ضرور پکڑتا ہے ضروری نہیں کہ فوری طور پر پکڑے وہ کبھی کبھی برسوں کے بعد بھی سزا دیتا ہے جس آدمی کو کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے اس کو سمجھنا چاہئے کہ میری کسی نہ کسی بدلی کا نتیجہ ہے۔

بیوی کو ستانے کی سزا فوراً ملی

ایک صاحب ملے ہماری ملاقات ہوئی وہ کہنے لگے کہ مولانا میں نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا آپ اپنے بیانات میں یہ واقعہ سنانا، تاکہ لوگوں کو بھی اس سے سبق ملے کہا کہ جب جب بھی میں نے اپنے گھر میں اپنی بیوی پر ظلم کیا اس دن کسی نہ کسی اعتبار سے میں نے اپنے بزنس میں نقصان ہوتے ہوئے دیکھا ہے یقین کے ساتھ انہوں نے کہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑا کر توبہ کی اللئے کان پکڑے کہ میں اب اپنی بیوی کو کبھی نہیں ستاؤں گا تب جا کر میرا حال ٹھیک ہوا، میں نے کہا کہ تمہاری بیوی

تو بہت نصیب والی بن گئی اس کا تو کام ہی بن گیا، اور بیوی نے بھی تمہاری اصلاح کر دی، ایسے لوگ دنیا میں خوش نصیب ہیں جو لوگ تھوڑی سی پکڑ میں سنبھل جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے انتظام کیا ہے۔

اللہ کی پکڑ کی تین شکلیں

اور اللہ تعالیٰ کے پکڑ کی کچھ شکلیں ہیں، اللہ گناہوں پر پکڑ کرتے ہیں تو اس کی تین شکلیں ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں گناہوں کی جو سزادیتے ہیں تین میں سے کسی ایک کے اعتبار سے سزادیتے ہیں (۱) پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نکیر کے درجہ میں سزادیتے ہیں (۲) دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ تاخیر کرتے ہیں یہ بھی ایک سزا ہے (۳) اور تیسرا نمبر پر یہ کہ اللہ تعالیٰ مکر کا بدلہ تدبیر سے کرتے ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب دینے کے تین طریقے ہیں (۱) نکیر (۲) تاخیر (۳) تدبیر۔ ان تینوں کو سمجھاتا ہوں۔

نکیر کے ذریعہ سزادینے کا مطلب

نکیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ کی سزا اس طور پر دیتے ہیں کہ اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں جانی ہو یا مالی ہو، یا بدنی ہو، اولاد کی گھر بار کی کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی گناہ کا بدلہ ہوتا ہے، آدمی اس کے اوپر سنبھل جائے تو اس کے لئے خوش نصیبی ہے، یہ وارنگ ہوتی ہے کوئی بھی مصیبت آئے تو سمجھنا چاہئے کہ کہیں نہ کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اب بتاؤ کون ہے جو سینہ تان کر رہا ہے سکے کہ میں سو فیصد عارف ہوں میں سو فیصد اللہ کا ولی ہوں یہ

دعویٰ تو حضرت انبیاء کرام اور ان کے بعد حضرات صحابہ کرام ہی کر سکتے ہیں ورنہ یہ دعویٰ کرنے کا پھر کسی کو حق نہیں ہے، تو نکیری ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مصیبت میں بتلا کر دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ انسان سنبھل جائے اور اپنی آخرت کو بنالے ورنہ تو میرے بھائیو۔ انسان وہاں پر خون کے آنسوؤں روئے گا لیکن وہاں اس کا رونا کوئی کام نہیں آئے گا دنیا ہی کے اندر موقع ہے۔

تا خیر والاعداب

دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ مهلت دیتے ہیں اور گناہوں کی سزا مهلت کی شکل میں ملتی ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ گناہ کرتا رہے، کرتا رہے، لیکن یہ بڑی خطرناک سزا ہے وہ ایسا سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے میں گناہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل ناپسند نہیں ہے وہ ایسا سمجھتا ہے لیکن حقیقت میں اس کی رسی کو ڈھیل دیا جاتا ہے، پھر اچا نک اس کو پکڑ لیا جاتا ہے جب اچا نک پکڑ لیا جاتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ کی پکڑ کوئی نہیں روک سکتا، انَّ كَيْدِي مَتِينٌ: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری پکڑ بڑی زبردست اور مضبوط ہے۔

تیسرا مدد بیر

تیسرا مزایا ہے میرے بھائیو کہ اللہ تعالیٰ جیسا عمل کیا ویسا ہی عمل اس کے بیہاں کروادیتے ہیں جیسا اس نے دوسرے کے ساتھ کیا ویسا ہی دوسرا اسکے ساتھ کرتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، امین، ایسے کئی ایک واقعات ہیں کہ کسی نے

دوسرے کے ساتھ کوئی نامناسب کام کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھی وہی نامناسب کام کروایا کسی نے دوسرے کو ناحق ستایا اللہ تعالیٰ نے بھی اس کوستا نے والے پیدا کر دیئے اس لئے اس طرح کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو اس کا صحیح استعمال کریں مال ہے تو اس کا صحیح استعمال کریں اور اگر عہدہ ہے تو اس کا صحیح استعمال کریں۔

ایک سنار کا واقعہ

ایک سنار تھا سونا بیچنے والا جسے کہتے ہیں، بہت نیک آدمی تھا اللہ والا تھا میں نے ایک بات کہی تھی کہ جتنا بڑا نیک اس کے پاس اتنا ہی بڑا شیطان آتا ہے، وہ اپنی جو بیلری کی دوکان میں تجارت کرتا تھا اس کے گھر پر ایک نوکر تھا جو روزانہ پانی بھر کر لا کرتا تھا پہلے زمانہ میں نل وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، لوگ کسی کنویں وغیرہ سے پانی بھر کر لایا تے تھے چنانچہ وہ شخص اس کے یہاں اٹھا رہا سال سے پانی بھر رہا تھا ایک دن ایسا ہوا کہ اسکی بیوی دروازے پر گئی تو اس پانی لانے والے نے اس عورت کا ہاتھ پکڑ کر زور سے دبایا اٹھا رہا سال سے اسکی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا وہ عورت حیران ہو گئی اسلئے کہ وہ بھی نیک مرد کی بیوی تھی اور وہ بھی نیک تھی وہ حیران ہو گئی کہ اٹھا رہا انیں سال سے ہمارے گھر کا خادم ہے، اس نے کبھی مجھ کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا اور اس نے آج میرا ہاتھ پکڑ کر دبایا وہ رونے لگی، کہ اے اللہ مجھے یہ کون سے گناہ کی سزا ملی وہ روئی رہی روتی رہی۔ شام کو جب وہ جو بیل را پنے گھر آیا، تو اپنی بیوی کو روتا ہوا دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے کیوں رورہی ہو؟ وہ عورت روئی رہی بہت پوچھنے کے بعد اس نے

یہ واقعہ سنایا کہ اٹھا رہا نہیں سال سے ہمارے گھر پر پانی لانے والا جس نے کبھی مجھ کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا آج اس نے میرا ہاتھ دبا کر اپنی شہوت پوری کی، پتہ نہیں کون سے گناہ کی مجھ کو سزا ملی۔ وہ جو میر بھی فوراً روئے لگا اس کی آنکھوں سے آنسو ٹکنے لگے اس نے کہا کہ یہ میرے گناہ کی سزا تم کو ملی ہے اس نے کہا کہ آج ہی میرے ساتھ ایسا ہوا کہ ایک عورت آج میری دوکان پر بنگل خریدنے کے لئے آئی اس نے مجھ سے یوں کہا کہ ذرا بنگل پہننا دیجئے، اسکے ہاتھ کو میں نے بنگل پہناتے پہناتے شہوت سے دبایا اللہ تعالیٰ نے آج ہی میرے گھر میں اس کی سزا دیدی، میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے چھوڑا نہیں جاتا، اگر کسی کی بیوی پر غلط نگاہ اٹھائی تو ہماری بیوی کے ساتھ یا ہماری بیٹی کے ساتھ یا ہماری بہن کے ساتھ یا ہماری خالہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی حرکت ہو کے رہتی ہے آئمیں کوئی دورائے نہیں ہے اپنے گھر ہی میں وہ واقعہ ہو جاتا ہے اس لئے اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔

ایک بادشاہ کا اس واقعہ پر تحریر

جب یہ واقعہ ایک عالم سے کسی بادشاہ نے سناتو وہ بادشاہ بھی بڑا متقی اور نیک تھا، اس بادشاہ نے عالم سے پوچھا کہ کیا اس واقعہ میں قصاص تو نہیں ہے؟ قصاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، قصاص کا سیدھا سادھا مطلب یہی ہے کہ آدمی نے کسی کو قتل کیا ہو تو اس کے بدله میں اس کو قتل کیا جائے ایک آدمی نے پتھر مار کر کسی کا سر پھوڑا ہو تو اسکو بھی پتھر مار کر اس کا سر پھوڑا جائے گا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ بادشاہ بھی سمجھدار تھا تو اس بادشاہ نے عالم سے یہ واقعہ سن کر کہا کہ اس واقعہ میں

قصاص تو نہیں ہے تو عالم نے کہا کہ بالکل قصاص ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے، کہا کہ ٹھیک ہے میں اس پر تجربہ کر کے دیکھتا ہوں، چنانچہ اس بادشاہ کی ایک لڑکی تھی بہت زیادہ خوبصورت تھی پری جیسی لڑکی، لیکن اس لڑکی کی عزت سلامت تھی، کبھی کسی نے اس کے اوپر نظر نہیں اٹھائی تھی بادشاہ نے تجربہ کرنے کے لئے اپنی لڑکی کو یوں کہا کہ تم آج باہر جاؤ اور ذرا را وند لگا کر آؤ۔ اور اس کے پیچھے پیچھے ایک عورت کو اس طرح لگا دیا کہ اس لڑکی کو پہتہ ہی نہ چلے، وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی چودھویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت تھی وہ باہر نکلی مارکیٹ میں چکر لگا کر آئی، مگر کسی نے اس کے اوپر نظر نہیں اٹھائی، لیکن جب وہ واپس آئی اور اپنے باپ کے فلیٹ میں داخل ہوئی۔ جب وہ اپنے کمرہ میں داخل ہو رہی تھی تو ایک آدمی نے اس کو دیکھا اس پر جھپٹ ماری اور اس عورت کو گلے سے چمٹایا اور اس کو دبا کر چھوڑ دیا اب یہ بیٹی اندر جا کر رونے لگی اس کے باپ نے پوچھا کہ بیٹی تم کیوں رورہی ہو؟ میں نے تو تمہارے پیچھے ایک عورت کو چھوڑا تھا تمہارے ساتھ تو کوئی واقعہ پیش نہیں آیا بیٹی نے کہا کہ اب اجان پورے راستہ میں میری طرف کسی نے نظر نہیں اٹھائی لیکن اس طرح کا واقعہ پیش آیا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے چنانچہ اس کے باپ نے کہا کہ میں نے بھی اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت پر نظر نہیں اٹھائی لیکن ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک عورت کو اپنے گلے سے لگا کر کر اسے دبایا تھا اس کا نتیجہ اس طرح میری بیٹی کے ساتھ نکلا۔

ہمیں سننچال لیا گیا

یہ صحیح صحیح بتیں ہیں اللہ تعالیٰ گناہوں کا بدله دنیا میں دیکھ رہتے ہیں، ہمیں تو

فی الوقت اور اس طامن میں اس کا بدلہ نہ ملے تو دھوکہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو خدا تعالیٰ نعمت ہے کہ ہمیں سنبھال لیا گیا اور اگر ہمیں نہ سنبھالا گیا ہوتا تو پھر ہمیں خطرناک قسم کے الارم کی گھنٹی ہے کہ کس وقت اسکی کیا سزا مل جائے، اور ایسی سزا ملے کہ جس کے بعد تو بہ کی گنجائش ہی نہ ہو، اور ایسی سزا تو بڑی خطرناک ہے اس لئے میرے بھائیو! گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، زندگی سلامت رکھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی زندگی کو سنبھالنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اللہ رب العزت ہم لوگوں کو گناہوں سے بچائے، اور ہم لوگوں کو نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے،
ہمارے دارین کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔۔۔۔۔ آمین

وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَمَ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ وَعَلَى الْأَلْهَ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
وَآخِرُ دُعَوَانَا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بسم الله الرحمن الرحيم

افتباں

میرے بھائیو، محبت تو آنے جانے سے بڑھتی ہے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے سے بڑھتی ہے، آپس میں محبت ہو تو رشته داریاں بڑھتی ہیں پہلے لوگ بیل گاڑا لیکر کئی میل دور تک اپنے رشته داروں سے ملنے کے لئے جایا کرتے تھے اور وہاں مستقل دوچار دن تک رہتے تھے اس سے محبتیں بڑھتی تھیں اور اس مال و دولت نے رشته داریاں اور آپسی محبت ختم کر دی۔ اسی لئے حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ؓ

تَنَّدَّأَبْرُونَ؛ كَمَا لَوْلَدَتِ الْأَرْضُ بِرَبِّهِنَّ كَمَا لَوْلَدَتِ
سَمَاءُ مَوْرِيْزَنَّ كَمَا لَوْلَدَتِ الْجَنَّةُ بِرَبِّهِنَّ كَمَا لَوْلَدَتِ
كَمَا لَوْلَدَتِ الْأَرْضُ بِرَبِّهِنَّ كَمَا لَوْلَدَتِ
سَمَاءُ مَوْرِيْزَنَّ كَمَا لَوْلَدَتِ الْجَنَّةُ بِرَبِّهِنَّ

کہ ہم نے دنیا ہی کو اپنا مقصد سمجھ رکھا ہے دنیا تو ہمیں رشته داریاں نہ جانے کے لئے دی گئی ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کے لئے اور انسانی ہمدردی کے لئے دنیادی گئی لیکن ہمارے بیہاں معاملہ اللہ ہو گیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دنیا آنے کے بعد مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده
وعلى الله واصحابه الذين اوفوا عهده اما بعد۔

بھائیو بزرگوار دوستو!

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب ایران اور روم کی دو بڑی بڑی طاقتیں تمہارے ہاتھ میں آجائیں گی تو تمہارا یہ حال ہو گا کہ تم بہت سی بیماریوں میں بتلا ہو جاؤ گے اور بعد میں ہوا بھی ایسا ہی، کہ مسلمانوں نے جب ایران اور روم دونوں کو فتح کر لیا تو ان کے اندر دنیا کی بہت سی بیماریوں نے جنم لیا حضور اکرم ﷺ نے اپنی بصیرت بھری نگاہوں سے دنیا کی کمزوری کو بھانپ لیا تھا اس لئے صحابہ کرامؐ سے فرمایا کہ ذرا تم بتاؤ جب یہ دو بڑی بڑی طاقتیں تمہارے ہاتھوں میں آجائیں گی تو تم کیا کرو گے حضرت عبد الرحمن ابن عوفؓ نے جواب دیا کہ :**نَفْعُلُ كَمَا أَمْرَنَا اللَّهُ بِهِمْ** ایسا ہی کریں گے جیسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ دنیا ہمارے پاس آنے کے باوجود بھی ہمارا طرز اور ہمارا روایہ وہی رہے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے انہیں اپنے آپ پر اعتماد تھا، صحابہ کرامؐ نے حضور ﷺ سے جو

تربیت پائی تھی اس کے نتیجہ میں انہوں نے جواب دیا مگر اللہ کے رسول ﷺ نے دنیا کی ان آفتوں کی طرف اشارہ فرمایا جن آفتوں کو لیکر دنیا آتی ہے۔

دنیا آنے کے بعد کی آفتین

آگے اللہ کے رسول ﷺ نے ان آفتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ارشاد فرمایا: تَنَا فَسُونَ ثُمَّ تَحَا سَدُونَ ثُمَّ تَتَّدَا بَرُونَ ثُمَّ تَبَأْعَضُونَ چار بیماریوں کی طرف آپ ﷺ نے اشارہ فرمایا کہ جب مال و دولت کی کثرت ہوتی ہے اور انسان کے ہاتھ میں بہت زیادہ دولت آتی ہے تو وہ بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے (۱) ایک تو اس میں تنافس کی بیماری آتی ہے (۲) دوسرا سے حسد کی بیماری آتی ہے (۳) اور تیسرا سے اس کے اندر پیچھے مٹنے کی بیماری آتی ہے (۴) اور چوتھے بعض پیدا ہو گا یہ چار الفاظ ہیں جو حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمائے ہیں بہت بلند الفاظ ہیں ہر ایک کے اندر اپنی اپنی خوبی ہے۔

تنافس کا مطلب

اور مسلمانوں کے ہاتھ میں بہت سے ممالک آجائیں گے تو سب سے پہلے آپس میں تنافس پیدا ہو گا تنافس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دل میں یہ بات آئے کہ میرے علاوہ اس چیز کو کوئی لینے نہ پائے میں ہی ساری چیزوں کو لے لوں میرے علاوہ کسی بھی شخص کو مال و دولت دنیا کی ثروت یادنیا کی حکومت ملنے نہ پائے وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہو کہ کسی اور کے پاس یا کسی اور کے ہاتھوں میں دنیا چلی جائے، اس کو تنافس کہتے ہیں دنیا آنے کے بعد سب سے پہلے تنافس کی بیماری آتی ہے۔

دوسرا مرحلہ حسد

پھر حضور ﷺ نے فرمایا کہ: ثُمَّ تَحَا سَدُونَ: پھر تمہارے اندر حسد پیدا ہو گا حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی دوسروں سے نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرے چاہے اس کو ملے یا نہ ملے۔ اس کو حسد کہتے ہیں یہ تو سراسر ناجائز ہے اس کی تفصیل انشاء اللہ الْعَزِيزِ بھی بتاتا ہوں۔ اسی کو یوپی کی کہاوت میں کہا جاتا ہے کہ تیری بکری مر جائے چاہے میری دیوار گرے یعنی اگر میری دیوار تیری بکری پر گرے تو مجھے میری دیوار کے نقصان کا کوئی غم نہ ہو گا لیکن تیرا تو نقصان ہونا چاہئے کہ میرے ایک ہزار پاؤ نڈ کا نقصان ہو جائے تب بھی مجھے گوارہ ہے، لیکن تیرے پانچ سو پاؤ نڈ کا نقصان تو ہونا ہی چاہئے چاہے پھر میرا بڑا نقصان ہی کیوں نہ ہوتا ہو۔ دیوار کے مقابلہ میں بکری کی کیا قیمت؟ دیوار تو بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے اور دیوار کے پیچھے جو محنت ہوتی ہے وہ بڑی کٹھن محنت ہوتی ہے۔

بوڑھے لوگوں سے پوچھو کوہا ایک دیوار کتنی محنت سے کھڑے کرتے تھے ان بیچاروں نے ایک دیوار کھڑی کرنے کے لئے پوری زندگی کمائی کی۔ اور اس کمائی کو داؤ پر لگا دیا تب جا کر وہ دیوار مکمل ہوئی، آدمی کے دل میں جب حسد پیدا ہوتا ہے تو پھر کسی بھی نعمت والے کی نعمت کو دیکھ کر کسی کو بھی عیش و عشرت میں دیکھ کر اس کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، اور وہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر مثلاً علم کی دولت کو دیکھ کر، مال کی دولت کو دیکھ کر، عزت کی دولت کو دیکھ کر حسد کرتا ہے۔

حد نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے

اور حضور ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے کہ آگ سوھنی لکڑی کو کھا جاتی ہے اور اس کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے اسی طرح حسد انسان کی ساری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے تو دنیا کی ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ دنیا آپس میں ایک دوسرے کو حسد میں ڈال دیتی ہے ایک کا حسد اسکے دل میں تو دوسرے کا حسد تیسرے کے دل میں۔

حد اور رشک میں فرق

ایک بات یہ بھی سن لیجئے، کہ ایک ہوتا ہے حسد اور ایک ہوتا ہے رشک، حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے ملے یا نہ ملے اس کامال بہر حال ختم ہو جائے لیکن رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر یا کسی کی بہت زیادہ عزت کو دیکھ کر یا کسی کو بہت بڑا عالم دیکھ کر کسی کو بہت بڑے مرتبہ والا دیکھ کر میرے دل میں یہ تمنا ہو کہ کاش مجھے بھی نعمت مل جائے اور اسکے پاس بھی باقی رہے یہ بڑا عالم ہے یہ بڑا مالدار ہے یہ بڑا عزت والا ہے اسکی عزت سلامت رہے اللہ کرے کہ مجھے بھی ایسی ہی عزت مل جائے اس طرح کی تمنا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔

ایک دوسرے کی محبت ختم ہو جائے گی

اور پھر آگے تیسری بیاری کی طرف اشارہ فرمایا کہ۔ **ثُمَّ تَسْدَأَبَرُونَ**۔ پھر تم پچھے ہٹنے لگو گے کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ پھر تم پشت دکھانے لگو گے کہ تمہارے اندر

ایک دوسرے کی محبت ختم ہو جائے گی دنیا جب بہت آتی ہے تو پھر یہی حال ہوتا ہے کوئی رشته دار کسی کو پوچھنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ مال و دولت اس کو انداھا بنادیتا ہے۔

دنیا کی کثرت رشته دار یا ختم کر دیتی ہے

معاف کیجئے۔ میں ایک مثال کے سمجھانے پر مجبور ہوں ہندوستان کے لکھر پر آپ غور کیجئے وہاں ایک دوسرے کی رشته داری کو نبھانے کے لئے انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی مشغولیت کو قربان کر دیتا ہے اپنا نقصان ہو جائے اس کو بھی نہیں دیکھتا ہے۔ اور یہاں آپ لندن میں دیکھنے وال مال و دولت کی کثرت اور اسکی ریل پیل نے رشته دار یوں کو بھی ختم کر دیا عین دن فون پر مبارکباد دیدی بس بہت ہو گیا اور اسی پر سارا معاملہ ختم ہو گیا کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا فون پر مبارکباد دیدی کسی کے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا بس فون پر تعزیت کر لی ابھی پرانے لوگوں میں الحمد للہ یہ سنت باقی ہے خدا کرے کہ نئی نسل میں بھی باقی رہے۔ ورنہ یہاں کا حال یہ ہے کہ کئی نوجوانوں کو پوچھا کہ پھوپی کسے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے ویسے شاید ابا کا کوئی رشته دار ہے، اس کو رشته داری نہیں کہتے ہیں۔ لندن والو! زندگی کا مقصد صرف دنیا کما نا نہیں ہے بلکہ رشته داری نبھانا اسلام کا ایک اہم ترین شعبہ ہے۔ تو میرے بھائیو۔ دنیا ہر ایک کی پرسنل لائف لیکر آتی ہے اور اب تو ہندوستان میں بھی کم ہونے لگا ہے اور یہ کمی یونیکشن کے جتنے بھی اسباب ہیں ان کی وجہ سے اور بھی بگاڑ آ گیا ایک تو یہ فون نے سب ستیاناس کر دیا آپس کی ملاقاتیں ایک دوسرے کی خبر گیری سب ختم

ہو گیا کوئی ہارت اٹیک کا مریض ہو تو بس فون کر کے پوچھ لیا اور پچھنہیں، اس طرح سے رشته داریاں نہیں بنتی ہیں۔

محبت آنے جانے سے بڑھتی ہے

میرے بھائیو۔ محبت تو آنے جانے سے بڑھتی ہے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے سے بڑھتی ہے۔ آپس میں محبت ہو تو رشته داریاں بڑھتی ہیں پہلے لوگ بیل گاڑا لیکر کئی میل دور تک اپنے رشته داروں سے ملنے کے لئے جایا کرتے تھے اور وہاں مستقل دوچار دن تک رہتے تھے اس سے محبتیں بڑھتی تھیں اور اس مال و دولت نے اس محبت کو ختم کر دیا اسی لئے حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ: ثُمَّ تَتَدَبَّرُونَ : کہ مال و دولت کی کثرت اور زیادتی کے بعد تم ایک دوسرے سے منہ موڑ نے لگو گے کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے دنیا ہی کو اپنا مقصد سمجھ رکھا ہے دنیا تو ہمیں رشته داریاں بھانے کے لئے دی گئی ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کے لئے اور انسانی ہمدردی کے لئے دنیا دی گئی لیکن ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہو گیا ہے

دنیا کی کثرت دشمنیوں کو جنم دیتی ہے

اور اللہ کے نبی ﷺ نے اخیر میں فرمایا کہ: ثُمَّ تَبَا غَضُونَ : تمہارے اندر آپس میں دشمنیاں پیدا ہو گئی، اس دنیا کی وجہ سے تم آپس میں بڑپڑو گے بھائی بھائی کا نہیں رہے گا بہن بھائی کی نہیں رہے گی بلکہ بیٹی اور باپ کے درمیان بھی جھگڑے ہو گے ہم دیکھتے ہیں حضور ﷺ نے جن چار بیماریوں کی طرف اشارہ فرمایا تھا بالکل ہمارے سامنے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے نافر کی بیماری پیدا ہوئی آدمی تما

کرتا ہے کہ اس کو یہ چیز نہ ملے صرف مجھ کو ہی ملے، آدمی ہر ایک کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے حسد بھی کرتا ہے اور آپس میں بغض و عداوت بھی رکھتا ہے اور ایک گھر میں رہنے والے دو سے بھائی ایک دوسرے سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور ایک ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے بھائی اور بہن ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں، جن کا رشتہ خالص محبت والا رشتہ ہوتا ہے۔ وہ بہن جو بھائی کی ایک ایک نگاہ کے لئے ترسی ہے لیکن دو کوڑیوں کی خاطر اب بہن بھائی کی بھی نہیں جلتی ہے گھر میں جب تک ایک بوڑھا رشتہ دار ہوتا ہے تب تک تو اسکی نگاہوں کے سامنے شرم سے کچھ چیزیں باقی رہتی ہیں لیکن جہاں اس کی آنکھ بند ہوتی ہے تو پھر کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں بلکہ آپس میں دشمنی پیدا ہونے لگتی ہے حضور ﷺ نے فرمایا یہ ساری چیزیں دنیا کی کثرت ہی لیکر آتی ہے اس لئے دنیا اتنی ہونی چاہیے جس سے آدمی کی محبت آپس میں باقی رہے اور اس کو انسان ہضم کر سکے۔

شکر گزار بننے کا طریقہ

آگے اللہ کے رسول ﷺ نے انسان میں شکر گزاری کے جذبات پیدا کرنے کے لئے اور ناشکری کی بیماری کو ختم کرنے کے لئے ایک بڑا اچھا معیار بتایا ہے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا؛ اِذَا نَظَرَ أَحْدُكُمْ إِلَى مَنْ أَفْضَلُ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَأَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فُضْلَ عَلَيْهِ: اس کا ماحصل اور مراد یہ ہے کہ آدمی کے دل میں جب یہ تمباک پیدا ہو کہ میں اپنے سے زیادہ مالدار لوگوں کو دیکھوں تو اسے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ

اسے اپنے سے ہلکے درجہ (Lower) کے لوگوں کو دیکھنا چاہئے اس لئے کہ آدمی جب اپنے سے اوپر درجہ کے لوگوں کو دیکھتا ہے تو اسکے دل میں ناشکری پیدا ہوتی ہے اس کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں مال کی محبت پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ دنیا کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ اس کے پاس دس کمروں کا مکان ہے اور میرے پاس پانچ کمروں کا ہے میں بھی دس کمرے والا مکان بنانے کی کوشش کروں گا حرص اور لا لمحہ پیدا ہوتی ہے اور لا لمحہ کی کوئی انتہاء نہیں، آدمی قبر میں جانے تک اس قسم کی لا لمحہ اور طمع میں پڑا رہتا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا اپنے سے ہلکے درجے کے لوگوں کو دیکھا کرو، اور دیکھو میرے بھائیو، انسان اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھے گا تو اسکے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو گا کہ او ہو، میرا تو سرڈھا پنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک مکان دیا ہے کئی لوگ بیچارے سرڈھا پنے کے لئے بھی پریشان ہیں۔

اور ایک اینٹ کو ٹیکھ لگائے ہوئے آسمان کے نیچے زندگیاں گزار رہے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو کرائے کے مکان ہی میں اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو بے چارے دو دن ادھر پانچ دن اُدھر، ایسے ہی زندگیاں گزار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے کم از کم پیٹ بھر کر روٹی اور مکان تو دیا، اور ایک نہیں دیتے، انسان اس طرح سوچتا ہے تو پھر اس کو شکر گزاری کی توفیق ہوتی ہے، یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے شاید کوئی ایسا ہو کہ جس کے پاس اپنا ذاتی مکان نہ ہو، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے ہر آدمی کے پاس ہے الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کا احسان مانا چاہئے اور ہمارے پاس تو ڈبل ڈبل مکان ہے اس ملک میں بھی ہر ایک کے پاس اللہ تعالیٰ نے مکان زمین سب کچھ دیا ہوا ہے اب ہم زیادہ اوپر کے لوگوں کو نہ دیکھیں

بلکہ اپنے سے نچلے درجہ کے لوگوں کو دیکھیں اور اس کے بہت سے فوائد ہیں جس کو انشاء اللہ ابھی سمجھاتا ہوں۔

پہلا فائدہ۔ ہمدردی پیدا ہوتی ہے

علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ جب آدمی اپنے سے نچلے درجہ کے لوگوں کو دیکھتا ہے تو اسکے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے کہ مجھے میرے بھائی کی مدد کرنی چاہیئے کہ میرے پاس تو تین کروں کامکان ہے فلاں کے پاس تو ذاتی مکان بھی نہیں ہے وہ تو بے چارہ کرائے کے مکان میں زندگی گزارتا ہے وہ ختم ہو جائیگا اس کی اولاد کا کیا ہو گا میں اپنا دوسرا مکان اور بیانالوں گا پہلے اس کو ایک آدھ کمرے کا انتظام کر دیتا ہوں اس کو ذرا ایک گاڑی کا انتظام کر دوں گا مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دوکان دی ہے اس کو طرح وہ سوچتا ہے۔

مالدار لوگوں کو دیکھنے کا نقصان

اور ابن حجر نے بہت پتہ کی بات لکھی ہے کہ جب آدمی اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھتا ہے تو پھر وہ ایک روپیہ بھی نہیں نکالتا ہے، اس لئے کہ اس کو تو وہ ایک روپیہ بچا کر رکھنا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس اور زیادہ مال آئے اس لئے کہ اس کی نظر تو مالدار پر ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اس کی طرح مجھے بھی دوسرا مکان بنانا ہے، اور اپنے اندر ترقی کرنی ہے، اس لئے وہ ایک ایک روپیہ رکھتا ہے، وہ کسی کو کچھ دینے کے لئے تیار بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن جب آدمی اپنے سے نچلے درجہ کے لوگوں کو دیکھتا ہے تو پھر یہ بات اس میں پیدا نہیں ہوتی۔

شکرگزار بننے کا دوسرا طریقہ

اس لئے بزرگوں نے شکرگزاری کے جذبات کو پیدا کرنے کے لئے دوسرا بھی ایک طریقہ لکھا ہے کہ آدمی اپنے ماضی کو یاد کرے یہ شکرگزاری کا دوسرا طریقہ ہے اور حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ شکرگزاری کی توفیق اس وقت ہوتی ہے جب آدمی اپنے سے نچلے درجے کے لوگوں کو دیکھتا ہے اور دوسرا طریقہ ہمارے بزرگان دین نے اپنے ملفوظات میں فرمایا کہ آدمی اپنے پریشانیوں کو یاد کرے کہ میرے باپ دادا وال کے پاس کیا تھا ہماری زمین کی کیا قیمت کیا ہوا کرتی تھی، ہمارے مکان کی قیمت کیا ہوا کرتی تھی ہمارے یہاں صحیح کھانا آتا تھا تو شام کی فکر ہوتی تھی اور شام ہوتی تھی تو صحیح کی فکر پڑتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کتنی دولتوں سے نوازا ہے کہ سال سال بھر کا انماج اور غلہ ہمارے گھروں میں پڑا رہتا ہے، بلکہ کئی کئی سالوں کا انماج اور غلہ پڑا رہتا ہے جب آدمی اس چیز کو سوچتا ہے، اپنے ماضی کو یاد کرتا ہے تو پھر وہ تکبر نہیں کرتا، وہ بڑائی نہیں جلتا تا ہے۔

ماضی کو یاد نہ کرنے والا متكبر بن جاتا ہے

لیکن جب آدمی اپنے ماضی کو بھول جاتا ہے تو پھر وہ تکبر کرنے لگتا ہے اور دوسرا کو بھول جاتا ہے اور پھر وہ دوسروں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہنے لگتا ہے۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ ہم دوسروں کو کون سے منہ سے کہتے ہیں ہمارے بھی کون سے ٹھکانے ہیں ذرا اپنے باپ دادا وال کو پوچھئے کہ ہم بھی جب اس ملک میں آئے تھے تو ہمارا کیا ٹھکانہ تھا پہلے ہماری بھی حالتیں کیا تھیں؟

وراثت میں برکت ہے

درمیان میں ایک بات اور یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت میں بہت برکت رکھی ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ وراثت ایسی چیز ہوتی ہے کہ آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا تخفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نصیب فرمایا ہے چنانچہ اکثر ویشتر لوگ جو مالدار بنتے ہیں وہ وراثت کے بل بوتے پر ہی مالدار بنتے ہیں، باپ داداوں کی زمین ملی، باپ داداوں کی دوکانیں ملی، باپ داداوں کی پراپرٹیاں ہمیں حاصل ہوئیں، تو ہم لوگ کروڑ پتی بن جاتے ہیں، یہ وراثت کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نصیب فرماتے ہیں۔ آگے کی روایت میں اسی کی طرف اشارہ ہے، فَهُوَ أَجَدُ رَأْنَ لَا تَزَدُ رُوَا نِعْمَةُ اللَّهِ كَآدَمِي اپنے سے نچلے درجے کے لوگوں کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو حقیر نہیں سمجھے گا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو قدر کی نگاہوں سے دیکھے گا۔ بال سے آدمی کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے عورتوں کو تو ہونی ہی چاہئے اس لئے کہ عورتوں کی زینت ہی ان بالوں میں رکھی گئی ہے عورتوں کو اپنے سر کے بال کا ٹنا حرام ہے۔۔ جیسے مرد کوڈاڑھی رکھنے کا حکم ہے ایسے ہی عورتوں کو بھی چوڑیوں کا حکم ہے فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں : سُبْحَانَ مَنْ زَيَّنَ الرِّجَالَ بِاللُّخْيِ، وَ زَيَّنَ النِّسَاءَ بِالسَّدَّوَآئِبِ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کوڈاڑھیوں کے ذریعہ اور عورتوں کو چوڑیوں کے ذریعہ زینت بخشی۔

عورت مرد کی مشابہت نہ اختیار کرے

ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھٹکار برساتا ہے لعنت نازل فرماتا ہے

ان عورتوں پر جو مردوں کی شکل اختیا کرتی ہیں، بال کٹا کریا ہی کٹ کٹا کر، اور چھوٹے چھوٹے بال کر کے مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں اور یہ سب مردوں کی مشابہت ہے کہ عورت مرد جیسے کپڑے پہنے، عورتوں میں ٹی شرٹ پہننے کی بیماری ہے، رات میں پہننے کی ہوتی بھی اس کو اجازت نہیں ہے شرٹ مردوں کا لباس ہے عورتیں اس کو نہیں پہن سکتی، ہمارے گجراتی معاشرہ میں اب شات کٹ کی بیماری آئی ہے اپنے گھروں میں اپنی ماں بہنوں کو سمجھانا چاہیے، کہ یہ شات کٹ کپڑے جو ہماری گجراتی عورتیں پہننے لگی ہیں وہ حرام ہیں۔

اس لئے کہ اس کے اندر سے ستر کی کیفیت نظر آتی ہے اور اسکے اندر سے بدن کا آدھا حصہ نظر آتا ہے، چاہے اس سے ستر ڈھک جاتا ہو تب بھی وہ حرام ہے، اس لئے کہ ان کپڑوں کو جو پہنا جاتا ہے ایک تو وہ شات کٹ ہوتے ہیں، اور اس میں بھی فٹ پہننے ہیں، یہ تو اور زیادہ برا ہے۔ آپ اچھے کپڑے پہنیں اچھے کپڑے پہنے سے کوئی منع نہیں کرتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی مہنگے کیوں نہ ہوں، اس کی پوری اجازت ہے ایسے کپڑے پہننا جس سے ستر کی کیفیت نظر آئے اور جس سے عورت کی ہائٹ اور اسکی قد و قامت نظر آئے، الیکی عورتوں پر اللہ تعالیٰ لعنت بر ساتا ہے کسی بزرگ کی بد دعا لگ جائے تو آدمی اس سے ڈرتا ہے کہ مجھے کسی اللہ والے کی بد دعا نہ لگے مجھے کسی نیک آدمی کی بد دعا نہ ملے ہم اللہ والوں کی دعا حاصل کرنے کے لئے ترپتے ہیں اور اسکے لئے اپنی لاکھوں روپیہ کی دولت داؤ پر لاگا دیتے ہیں، بہت سے بے چارے مالدار لوگ جو اپنے مال کی قربانیاں دیتے ہیں وہ اسی لئے کہ کسی عالم اور بزرگ کی دعا لگ جائے کسی ذاکر

شاغل کی دعا لگ جائے اسکی بد دعا سے ہم نجیج جائیں۔ عورتیں مردوں کا لباس اختیار کریں اور مرد عورتوں کا لباس اختیار کریں اس صورت میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بد دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو عورتیں مردوں کی شکل و صورت اختیار کرتی ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے: ارشاد ہے، لَعْنَ اللَّهِ
الْمُمْتَرَ جَلَّاتِ مِنَ النَّسَاءِ : کپڑوں کے ذریعہ اپنی شکل و صورت کے ذریعہ اپنے سر کے بال کاٹ کر جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بر ساتے ہیں۔

مرد عورت کو خلاف شرع پر مجبور نہ کریں

میرے بھائیو۔ ہماری طرف سے بھی ان عورتوں کو اس قسم کی زبردستی نہیں ہونی چاہئے عورتوں کو ہم شریعت اپنانے سے کیوں روکیں؟ شرعی لباس پہننے سے انہیں ہم کیوں روکیں؟ قیامت کے دن ہماری باز پرس ہو گئی قیامت کے دن ہمیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنی بیوی کا کیسا مزاج بنایا، ہم نے اپنی بیوی کا کیسا ذہن بنایا، عورت کو سمجھانا بہت آسان ہے۔ ہم لوگوں نے چونکہ ہاتھ ساندھ میں کر لئے ہیں ہمیں بھی اپنی من چاہی زندگی گزارنی ہے، اس لئے ہم عورتوں کو روکتے نہیں، اصل میں مرد اس لئے نہیں روکتا کہ اس کو ڈر لگتا ہے کہ میں اس کو روکوں گا تو وہ بھی مجھے غلط کاموں سے روکے گی اس لئے اس کو اپنی زندگی گزارنے دو، میں بھی اپنی زندگی گزاروں، اس طریقہ سے سماج بتا نہیں ہے اس طریقہ سے کیونٹی بنتی نہیں ہے بلکہ بگاڑ پیدا ہو گا۔

ہمیں ایک دوسرے کی فکر کرنی ہو گی

سماج کا پورا ڈھانچہ جو آج کل ٹوٹ گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی کوئی فکر ہی نہیں، باپ سوچتا ہے کہ میں نے میرے بیٹی کو بڑا کر دیا اب وہ جانے اس کا کام جانے، باپ سوچتا ہے کہ میری بیٹی کی شادی کر دی اب وہ جانے اس کا کام جانے، مسلم شریف کی بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے شادی کے بعد کئی مسئللوں پر حضرت عائشہؓ کو ڈالنا ہے۔ پتہ چلا کہ شادی کے بعد بھی بیٹی کی طرف توجہ دینا چاہیے۔

تحوڑے سے بال کا آپ بناؤ سنگار کر سکتے ہو، چھوٹے بچوں کو جو لباس ہم پہناتے ہیں اسیں بھی غور کرنا چاہیے بہت سی مرتبہ چھوٹا بچہ دودھ پینے والا ہوتا ہے اس کو آپ شرط پہنا کیں جس کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے اور تصویر سے فرشتہ نہیں آتا ہے، بلکہ شیطان قریب آتا ہے پھر یہ بچہ روتا ہے بچہ نیند کے اندر ڈر جاتا ہے گھبرا جاتا ہے اور ہم تعویذ لینے کے لئے دوڑتے ہیں کہ میرا اپر رات میں ڈر رہا ہے، ڈرے گا نہیں تو اور کیا ہو گا؟ شیطان اس کو ڈراتا ہے۔ شیطان اس کو رلاتا ہے شیطان کا تو کام ہی ہے کہ بچے کے پیدا ہونے سے لیکر اس کو مرتے دم تک رلاتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت سے شیطان اس کو چوکہ لگا کے رلاتا ہے کپڑوں کی طرف بھی ہمیں نظر کرنے کی ضرورت ہے

بنی اسرائیل کے تین افراد کا واقعہ

آگے کی روایت میں بنی اسرائیل کے تین افراد کا واقعہ ہے حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں تین شخص تھے ان میں سے ایک شخص گنجاتھا یعنی

اس کے سر پر بال ہی نہیں تھے مرد کو بھی سر پر بال کل بال نہ ہوں اور وہ ائمہ پوٹ جیسا بن گیا ہو تو ذرا شرم آتی ہے لوگوں کے سامنے سر کھولنے سے شرم آتی ہے لیکن انسان کو بال رکھنے کے لئے اجازت ہے اور کافی تک بال رکھنے کی اجازت ہے۔ اس سے بڑے بال رکھنے کی اجازت نہیں ہے اور آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ بالوں کی رعایت کرنی چاہیے رعایت کا مطلب یہ ہے کہ اسیں تیل ڈالنا اس کو گھولنا اور اس کو اچھے طریقہ سے رکھنا اور اس کا خیال رکھنا ضروری ہے تو بنی اسرائیل میں تین شخص تھے ایک کوڑا ایک گنجہ اور ایک نابینا۔

تینوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام

اللہ تعالیٰ نے ان تینوں آدمیوں کو آزمانا چاہا چنانچہ ان تینوں کے پاس ایک فرشتہ کو بھیجا کہ باری باری ان تینوں کے پاس جاؤ۔ فرشتہ پہلے تو کوڑ کی بیماری والے کے پاس آیا کوڑ کی بیماری (Skin) جلد سے تعلق رکھتی ہے وہو پ میں وہ شخص کھڑا نہیں رہ سکتا، اور اس کو ہی چھڑی کی قدر ہوتی ہے چنانچہ اس کوڑ والے کے پاس فرشتے نے آکر پوچھا کہ تمہارے لئے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کونسی ہے سب سے بڑی نعمت تمہارے نزدیک کونسی ہے؟ اس نے کہا اچھا لکڑ اور اچھی چھڑی مجھے بہت پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے میری یہ بیماری دور کر دے بس میں یہی چاہتا ہوں آدمی کو کوئی بیماری ہوتی ہے وہی اس کے لئے سب سے بڑی مصیبت ہو جاتی ہے چنانچہ وہ فرشتہ تھا اللہ تعالیٰ نے بہت سے فرشتوں کو ایسی اجازت اور طاقت دی ہے اس فرشتے نے اس کے پورے بدن پر ہاتھ پھیرا، اور اس کی بیماری دور ہو گئی، اس کی چھڑی

اچھی ہوئی پھر اس کو پوچھا کہ تجھے کون سماں زیادہ پسندیدہ ہے اس نے کہا کہ اوونٹ مجھے زیادہ مل جائے یا گائے زیادہ مل جائے اس زمانہ میں لوگ جانوروں کو بہت بڑی ملکیت (Property) سمجھا کرتے تھے چنانچہ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کی دعا کے نتیجہ میں مال دیدیا، بہت زیادہ اس کو اوونٹ ملے، برکت ملی۔ اور اپنے زمانہ کا وہ شخص ریس آدمی بن گیا۔

اس کے بعد وہ فرشتہ دوسرے شخص یعنی گنجہ کے پاس گیا جس کے سر پر بال نہیں تھے، اس سے پوچھا کہ تجھے سب سے زیادہ محبوب چیز کوئی ہے اس نے کہا کہ اچھے بال مجھے بہت پسند ہے اور مجھے میں جو بیماری ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمادے چنانچہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے سر پر اللہ تعالیٰ نے بال اگادیئے، اس سے پوچھا کہ تجھے کون سماں زیادہ اچھا لگتا ہے، اس نے کہا کہ میرے پاس گائے زیادہ ہو، اور وہ بھی دودھ دے، اور اس کے بچے پیدا ہوں، اور میں اس کو فروخت کروں، اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نعمت سے نواز دیا، اور تیسرے ناپینا شخص تھے اور جن کی نگاہیں ختم ہو چکی تھیں، اس آدمی کے پاس فرشتہ آیا، اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز چاہیے، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری نگاہوں کو لوٹا دے میں دیکھنے والا بن جاؤں میری بینائی کے لئے دعا کر دیجئے۔ اور اس کی بھی دعا کر دیجئے کہ میرے پاس دولت بہت زیادہ ہو جائے، چنانچہ فرشتہ نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اسکی آنکھیں صحیح ہو گئیں اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت دولت اور بہت برکت نصیب فرمائی یہ تو انعام والامعاملہ ہو گیا۔

فرشته کا آزمائش کے لئے دوسرا دورہ

اتنا ہونے کے بعد پھر وہ فرشته دوسرے دورہ پر نکلا پہلے دورہ میں تو اس نے ان تینوں کی مرادوں اور چاہتوں کو پورا کر دیا دوسرے دورہ میں پھر اس کوڑ والے کے پاس وہ فرشته گیا لیکن دوسرے دورہ میں فرشته اپنی شکل و صورت بدل کر گیا اللہ تعالیٰ نے فرشته کو شکل و صورت بد لئے کا اختیار دیا ہے حضور اکرم ﷺ کے پاس فرشته ہمیشہ اپنی اصلی شکل میں نہیں آتا تھا اپنی شکل میں تو دوچار دفعہ ہی حضرت جبریلؑ تشریف لائے کبھی حضرت دحیہ کلبیؓ کی شکل میں کبھی کسی اجنبی کی شکل میں کبھی کسی دیہاتی کی شکل میں جبریلؑ امین یشریف لاتے تھے۔

کوڑھی کا جواب

چنانچہ یہ فرشته کوڑھ والے کے پاس ایک مسکین غریب اور فقیر کی شکل میں آیا اور کہا کہ میں بہت غریب ہوں اور فقیر ہوں اور بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں میرے پاس اسوقت کوئی وسیلہ نہیں ہے، میں نے سمجھا کہ تم ہی میری مدد کرو گے میں اس اللہ کا واسطہ دیکھتے ہوں سے مانگتا ہوں سوال کرتا ہوں جس نے اتنا اچھا کلمہ تم کو دیا ہے تمہاری اتنی اچھی جلد بنائی اور تم کو اتنا زیادہ مال و دولت دیا تم ایک آدھ اونٹ مجھ کو دیدو، تاکہ اس کے ذریعہ میں اپنی منزل مقصود پر پہنچ سکوں۔ اس آدمی نے اپنے زمانہ میں جب کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس کو بھلا دیا اور جواب دیا کہ لینے والے بہت سے لوگ ہیں اب مجھے کئی

لوگوں کو دینا پڑتا ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا میں تم کو جانتا بھی نہیں ہوں، تم کیا میرے پاس آگئے، اتنا زیادہ میرے پاس مال و دولت ہے تو اسکے لئے تو میرے کئی حقوق متعلق ہیں میں تم کو نہیں دوں گا اس کوڑھ والے کو اس فرشتے نے یاد دلا یا کہ تجھے یاد ہے کہ تیری حالت کیا تھی، کیا تو بدل گیا؟ تو ایک اونٹ اور ایک ایک بکری کے لئے ترستا تھا تو فقیر تھا تیرے پورے بدن پر صحیح چھڑی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مال دیا ہے اور تیری اس چھڑی کو درست کر دیا اس نے اس کو یہ ساری باتیں یاد دلائی لیکن اس آدمی نے جھوٹ کہا اور اس نے کہا کہ مجھے تو یہ مال و راثت میں ملا ہے مجھے تو میرے باپ داداؤں کی محنت کے نتیجہ میں یہ چیز ملی ہے فرشتے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت حاصل ہوتی ہے اس فرشتے نے کہا کہ؛ انْ كُنْتَ كَأَذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو پہلی حالت پر لوٹا دے، چنانچہ اسکی حالت ویسے ہی ہو گئی جو خدا دینا جانتا ہے وہ خدا یعنی بھی جانتا ہے جو خدا تعالیٰ کئی برسوں میں دیتا ہے وہی خدا ملحوں میں لینا بھی جانتا ہے۔

گنجے کا جواب

اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور اس سے بھی وہی بات کہی اور اس گنجے نے بھی وہی جواب دیا کہ میں بہت مصروف ہوں اور مجھے دینا نہیں ہے یہ تو مجھے اپنے باپ داداؤں کی وراثت میں ملا ہے فرشتے نے اس کو بھی بد عادی

اور پھر وہ دوبارہ گنجاب نگیا دوبارہ اس کی حالت ویسی ہی ہو گئی جیسے کہ اس کی پہلی حالت تھی۔ اس لئے میر بھائیو! ہمیں اپنی اوقات نہیں بھولنا چاہیے پرانا زمانہ ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے ان دونوں نے اپنی پرانی اوقات بھلا دی، اور جس خالق و مالک نے ان کو یہ سارا مال و دولت دیا اسی کے راہ میں دینے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے مال اور دولت کو سلب کر لیا۔

اندھے کا جواب

پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے بھی یہی درخواست کی کہ میں غریب قسم کا آدمی ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے اب میں تجھ سے مانگتا ہوں چنانچہ اس اندھے نے بہت شکر گزاری کے ساتھ کہا کہ دیکھو بھائی پہلے میری بھی حالت ایسی ہی تھی میں بھی بہت غریب اور فقیر تھا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کسی کی دعا کے نتیجہ میں دیکھنے والا بنایا اور مجھے کسی کی دعا کے نتیجہ میں اتنا مال اور دولت دیا ہے اور کہا خُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ کہ جو تم چاہو لے جاؤ اور جو چاہے رکھو، بہت جگر کے ساتھ اس نے یہ بات کہی کہ یہ میرا پورا مال و دولت ہے جو تمہارے جی میں آئے اس کو لے جاؤ، اور جو تمہارے جی میں آئے اس کو چھوڑو، اللہ کی قسم مجھے بغیر کسی محنت اور مشقت کے یہ مال ملا ہے فرشتے نے کہا کہ تیرا مال تیرے پاس سلامت رہے، میں دعا کرتا ہوں کہ تیری نسلوں میں یہ مال باقی رہے میں تو صرف آزمائش کے لئے آیا تھا اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہوا اور تیرے ان دونوں ساتھیوں سے ناراض ہوا۔

حدیث پاک کے ذریعہ عبرت

اس حدیث پاک کے ذریعہ حضور اکرم ﷺ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکردا کرنا چاہئے اپنی پہلی زندگی کو کبھی نہیں بھولنا چاہئے اور غریب لوگوں کو کبھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہئے کیونکہ ہم بھی پہلے غریب ہی تھے۔

ہم بھی پہلے غریب ہی تھے

ہم بھی پہلے غریب ہی تھے ہم اگر نہیں تھے تو کیا ہوا ہمارے باپ دادا پہلے غریب ہی تھے ہمارے پاس بھی اوڑھنے کے لئے کچھ نہیں تھا وہ تو قبروں میں چلے گئے ورنہ وہ ہمیں بتلاتے کہ ہم نے کس طریقہ سے مال و دولت کمایا، تو کسی نئے آنے والے شخص کو کسی غریب کو جو نیابیا ہندوستان سے آیا ہو، اور اپنی زندگی کو کھڑا کرنا چاہتا ہو تو ہم اس کامداق نہ اڑائیں یا ہم اپنے ملک میں جائیں تو کسی غریب کو دیکھ کر اس کامداق نہ اڑائیں بلکہ غریبوں کے ساتھ ہمیشہ انسان کو محبت رکھنی چاہئے۔

غریبوں کو حیرمت جانو

حضور ﷺ نے تو ایک روایت میں فرمایا کہ: إِبْغُونَى فِي الْضُّعْفَاءِ وَالْمَسَاكِينِ: کہ اگر مجھ کو تلاش کرنا ہے تو کمزور اور مسکین لوگوں میں تلاش کرو میں ان لوگوں میں تمہیں ملوں گا اور حدیث قدسی میں آیا ہے اللہ تعالیٰ خود ارشاد

فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے پاس رہتا ہوں جن کے دل غربت اور مسکنت
کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مال و دولت کی قدر دانی
اور اسکی شکرگزاری کی توفیق نصیب فرمائے ۔۔۔، امین

وَصَلِّ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ -

وَآخِرُ دُعَوَانَا أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بسم الله الرحمن الرحيم

اقتباس

میرے بھائیو۔ جو چیزیں نئے نام سے اسلام میں دوبارہ پیدا ہو رہی ہیں اور جن فتنوں کی طرف حضور اکرم ﷺ نے نشاندہی کی تھی وہ مختلف شکلوں کے ساتھ نئے نئے نام کے ساتھ وجود میں آئی ہیں جس طرح جو فتنے شروع زمانہ میں تھے اور جو فتنے پہلے زمانہ میں ہو گئے وہ فتنے نئے نئے نام کے ساتھ نئے اسٹائل کے ساتھ اور نئی تمہید کے ساتھ ڈکلیر ہو رہے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہیں معتزلہ نے یہی استدلال کیا تھا کہ ہم اپنی عقل کے مطابق چلیں گے شریعت ایک پرانی چیز ہے اس زمانہ میں جوبات کی ہو گی وہ اس زمانہ کے اعتبار سے ہے اور اب تو زمانہ آگے بڑھ رہا ہے اس لئے ذرا ہم کو اپنی سوچ کو بھی بدلتا پڑیگا لیکن اللہ جزاۓ خیر دے ان علماء کرام کو کہ انہوں نے اس کا زور دار مقابلہ کیا ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

پرفتن دور میں ہم کیا کریں؟

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبی بعده وعلى
الله واصحابه الذين أوفوا عهده اما بعد:-

صحابہ کرامؓ کے دور میں جب کچھ لوگ اپنی اپنی رائے چلانے لگیں تو حضرت سعد ابن وقارؓ اپنے جانوروں کو لیکر جنگل کی طرف منتقل ہو گئے کھیتوں کی طرف منتقل ہو گئے لبستی اور آبادی سے دور ہو گئے لوگوں میں تھوڑا سا فتنہ کا دور دورہ ہے اختلاف کا مرحلہ ہے اس لئے انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی اور اس سے بچنے کی کوشش کی۔ حضرت سعد ابن وقارؓ کے ایک بیٹے تھے حضرت عمر ابن سعد بن ابی وقارؓ وہ اپنے والد کے پیچھے پیچھے گئے اور ان سے جا کر کہا کہ آپ کیا عجیب آدمی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحابی رسول ﷺ بنایا ہے، لوگوں میں اختلاف چل رہا ہے، اور آپ ہیں کہ اپنے ان جانوروں، اور اونٹوں کو لیکر یہاں جنگل میں منتقل ہو گئے، اور اس طرح ایسے کھیتوں میں رہنے لگے، اپنے لوگوں کو اس حال میں چھوڑ دیا کہ وہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں اور آپس میں کھینچاتا نی کرتے رہیں۔

حضرت سعدؓ کا جواب

بیٹے نے یہ اعتراض کیا تو حضرت سعدؓ نے اس کے سینہ پر جھٹکا کا گایا اور فرمایا کہ تو چپ ہو جا، زیادہ اول فول بکواس مت کر، تو مجھ پر سوال مت کر، میں نے یہ جو کچھ حرکت کی ہے کہ میں آبادی اور بستی کو چھوڑ کر اس طرف آگیا اپنے جانوروں کو لیکر آگیا اسکی کچھ وجوہات ہیں اور پھر بیٹے کے سامنے انکوڈ کر فرمایا کہ اس طرح جنگل میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے مقبول سر کار دو عالم ﷺ کی ایک نصیحت کی بنا پر کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيُّ الْخَفِيُّ۔ کہ اللہ تعالیٰ تین صفات والے بندوں سے محبت فرماتے ہیں پہلی صفت تو یہ ہے کہ بندہ متقی ہو، العبد التَّقِيَّ: اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو، اور اس کے نواہی سے اور اس نے جن کاموں سے روکا ہے اس سے دور رہنے والا ہو۔

دوسری صفت غناء

دوسری صفت بندہ میں یہ ہوئی چاہیئے کہ اس میں غناء قلبی ہو، اس میں دل کے اعتبار سے مالداری ہو، اس کا دل بڑا ہو، یہاں محدثین نے غنی سے مراد یہی شخص لیا ہے جیسے حدیث میں آیا ہے کہ: خَيْرُ الْغِنَىٰ النَّفْسٌ: کہ اصل استغناء اور مالداری تو یہ ہے کہ آدمی کا دل مالدار ہو بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوتا ہے لیکن ان کا دل چھوٹا ہوتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کو اگر چہ مال کم دیا ہوتا ہے مگر ان کا دل بڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹانے میں، غریب و مساکین کے پیچھے اپنے آپ کو لگانے میں ان کا

دل بہت بڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے اگرچہ یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مال کے اعتبار سے جو غنی ہوتا ہے، وہ غنی پسند ہے شرط ہے کہ اس کو مال ہضم ہوتا ہو، اور وہ حقوق کو ادا کرتا ہو، بہر حال محدثین کی رائے یہ بھی ہے لیکن پہلی بات حدیث سے متعین ہے جس میں حضور ﷺ نے خود ارشاد فرمایا خیّر **الغُنِيُّ غَنِيَ النَّفْسِ**۔ کہ بہترین مالداری دل کی مالداری ہے۔

شریعت ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی

ہم لوگ آپس میں تعریفیں طے کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ شریعت میں بھی وہی بات ہو جس کو ہم اپنی مرضی کے مطابق سمجھتے ہیں جیسا کہ ہم آپس میں باڈی بلڈر اور کشتی باز اس شخص کو سمجھتے ہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دیتا ہو جو کسی کوشش کو شکست دیتا ہو جب کہ حدیث پاک میں پہلوان اس کے خلاف فرمایا گیا ہے ارشاد عالیٰ ہے، لیس **الشَّدِيدُ بِالصُّرُعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ مَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ**۔ ترجمہ طاقتو آدمی وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دیتا ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو بہادر اور طاقتو رہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ پر کنٹروں اور قابو رکھتا ہو جو غصہ پی جاتا ہو یہ شخص سب سے زیادہ طاقتو رہے، اسی طریقہ سے مالداری کی بھی جو تعریف حضور ﷺ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ مالدار آدمی وہ ہے جس کا دل مالدار ہو۔ پتہ چلا کہ ہم جس کو مالدار کہتے ہیں اسلام میں وہ صحیح مالدار نہیں ہے، اور جس کو ہم پہلوان کہتے ہیں اسlam میں اس کا مفہوم کچھ اور ہے، معلوم ہوا کہ کوئی ضروری نہیں کہ ہماری عقل شریعت سے میل کھاتی ہو، ہمیں کچھ ایسے بھی احکامات کو ماننا پڑے گا جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے ارشاد

فرمادیئے چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، نہ یہ کہ ہم اس کو اپنی عقل پر رکھیں اور سمجھ میں آئے تو ہی مانیں اس طرح کا نظر یہ غلط ہے۔

چوتھی نصیحت

اور آخری نصیحت جو حضرت سعد ابن ابی وقار صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ فرمانا چاہتے تھے اور اپنے اس عمل کو بطور دلیل کے بتانا چاہتے تھے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندہ کو پسند فرماتے ہیں جو لوگوں سے چھپا ہوا رہتا ہے مسلمان کھلنے کے لئے نہیں ہے وہ تو چھپنے کے لئے ہے، شہرت پسندی ایمان والوں سے بہت دور ہونی چاہیے ہم لوگوں کی ایک بیماری یہ ہے کہ ہم اپنے (Add) کو اپنی شہرت کو اپنے نام کا چرچہ ہونے کو بہت پسند کرتے ہیں، کچھ بات ہوئی تو ہر ایک چاہتا ہے کہ اخبار میں میرا نام آجائے ذرا ٹیکلی ویزنا میں میرا نام آجائے ویڈیو کیمرہ میں میری بھی تصویر آجائے یا فوٹو میں میں بھی آجائوں لوگوں میں میرا چرچا ہو جائے میرے نام کی تختیاں لگیں اب میری واہ واہ ہونے لگے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہے۔

شہرت پسند حضرات کا انجام

بلکہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں روانہ فرمائیں گے اور یہ فرمائیں گے کہ تو نے دنیا میں اتنا ہی چاہا تھا کہ تیرے نام کا چرچہ ہو جائے تیری واہ، واہ، ہو جائے ٹھیک ہے میں نے تیری چاہتوں کو پورا کر دیا آج تیرے لئے کوئی بد لہ نہیں ہے حضرت سعد ابن ابی وقار صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے فرمایا ہے کہ سرکار دو جہاں ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو لوگوں

سے چھپ کر رہتا ہو فتنوں کے زمانہ میں الگ تھلگ رہتا ہو تو میں نے بھی اپنے آپ کو الگ کر دیا۔

فتنوں کے دور میں کیا کرنا چاہیے

اس حدیث میں ہمارے لئے ایک بہت بڑا اور قیمتی سبق یہ ملتا ہے کہ بعض حالات ایسے آتے ہیں کہ جس میں آدمی کوامر بالمعروف اور نبی عن الممنکر کو بھی ترک کر دینا پڑتا ہے اگر فتنے پیدا ہو جانے کا خطرہ ہو اور ہر آدمی اپنی رائے پر چلتا ہو، تو انسان کو بس اپنی فکر کرنی چاہیے، ایک آیت کریمہ مجھے یاد آ رہی ہے ساتویں پارہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ارشاد ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا إِلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ: کہ اے ایمان والو تم اپنی فکر کرتے رہو، اگر کوئی شخص گمراہ بھی ہوتا ہے اور تم ہدایت پر ہو تو اسکی گمراہی تمہیں کچھ نقصان نہیں دیگی تو قرآن یہ کہتا ہے کہ: عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ: اپنی اپنی فکر کرتے رہو، پھر سوال یہ ہو گا کہ کیا کسی کو کوئی بھلامی نہیں کہنی چاہیے، اور برائی سے روکنا بھی نہیں چاہیے تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ اپنے عموم پر نہیں ہے یعنی ہر حالت اور ہر موقع کے لئے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فتنوں کے زمانہ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں یعنی صرف فتنوں کے دور میں اس طرح اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھنا چاہیے۔ اور فتنوں کا دور کسے کہتے ہیں اس کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔

فتنه کے دور کی چند علامات

حضرور ﷺ نے کچھ حالات اور علامات ارشاد فرمائی ہیں۔

☆ جب تم لوگوں میں ایسا درد دیکھو گے کہ لوگ بس مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہو
☆ بخیلی کا دور ہو۔

☆ اور جب تم یہ دیکھو کہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔
☆ کوئی کسی کی بات سنبھل کوتیا رہیں ہے۔

☆ اور جب تم دیکھو کہ وہ لوگ دنیا کی پیروی کرتے ہیں اور اس کو ترجیح دیتے ہیں اور دنیا کو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں کرتے ہیں۔

☆ اور جب تم یہ دیکھو کہ ہر آدمی مفتی بن بیٹھا ہے ہر آدمی اپنی ہی رائے پر عمل کرتا ہے کوئی چھوٹا کسی بڑے کی بات ماننے کوتیا رہیں ہے ہر ایک اپنی اپنی ڈیرہ حائیٹ کی مسجد الگ کھڑی کر رہا ہے ہر ایک اپنے نام کو بڑا کرنے اور اپنے نام کی بہار لانے اور انفرادیت کا خواہاں اور طالب ہو، ہر ایک اپنے آپ کو مستقل کیوں نیٹ اور معاشرہ اور سوسائٹی میں رکھنا چاہتا ہو کوئی کسی کی بات ماننے کوتیا رہیں ہے۔

جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں تو ایسے موقع پر حضور اکرم ﷺ نے یہ نصیحت فرمائی کہ تم اپنے مسلک کو پکڑ کر بیٹھے رہو۔ اور میری ہدایات پر عمل کرتے رہو۔ اس لئے کہ تم کچھ بولنے جاؤ گے تو فتنہ پیدا ہو گا نیکی کا حکم کرنا بہت بڑا ثواب ہے لیکن جب ایسے حالات آئیں گے تو خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔

نیم حکیم خطرہ جان

آج کل ایسے حالات ہیں کہ اگر کسی نے تھوڑا سا علم حاصل کر لیا، دوچار کرتا ہیں پڑھلیں تھوڑا قرآن پاک حفظ کر لیا تھوڑی بہت دین کے بارے میں معلومات حاصل کر لی تو آدمی اپنے آپ کو لیوں کا مفتی سمجھتا ہے جیف جسٹس آف ورلڈ سمجھنے لگتا ہے میں جو سمجھتا ہوں وہی صحیح ہے جیسے نیم حکیم لوگ یہ جان کا خطرہ ہوتے ہیں ایسے ہی نیم ملا ایمان اور اسلام کا خطرہ ہوتا ہے۔

ہماری شریعت سستی نہیں ہے

شریعت ہماری اتنی سستی نہیں ہے کہ اس کے لئے ہر آدمی مفتی بن جائے اور اس کے بارے میں ہر آدمی اپنے اختیار سے فتویٰ دینا شروع کر دے اور اپنی رائے شروع کر دے اور جماعتیں متعین کرنا شروع کر دے عورتوں کی تراویح کی نماز کو شروع کر دے، شریعت نے اس کو پسند نہیں فرمایا ہے، جن لوگوں کو شریعت نے متعین کیا ہے، وہی لوگ اس بات کو کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں وہ حرف آخر ہو گی۔

ورنہ چھوٹے چھوٹے لوگ اس طرح کھڑے ہو جائیں گے تھوڑے بہت اپنے دلائل اور عقل کی روشنی میں اور زمانہ کے بھاؤ، اور زمانہ کے دھارے میں رکھر چلنا اگر شروع کر دیں گے تو یہ دین اسلام بھاجی اور گا جرمولی کے دام میں بننے لگے گا شریعت کو ہم نے اتنا ستا سمجھ لیا ہے ہم دنیا کی کسی چیز کو خریدنے کے لئے دس آدمیوں کو پوچھتے ہیں اور کوئی اسکیم رکھی گئی ہو تو اس کو ہم لینے کے لئے اور کسی مال کو خریدنے کے لئے ہم

مختلف قسم کے مارکیٹ کا چکر لگاتے ہیں، مختلف جگہ دیکھتے ہیں کیا ہمارا نہب اسلام جماعت کی نمازیں، روزے اور زکوٰۃ کے احکام، اور آپس میں برتنے کے احکام اتنے سستے ہو گئے کہ ہم کسی عالم دین سے پوچھے بغیر ہی اپنی عقل میں جو آگیا اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہ معتزلہ کا فتنہ ہے۔

زمانہ کے اعتبار سے چنان معتزلہ کی سوچ ہے

میرے بھائیو۔ جو چیزیں نئے نام سے اسلام میں دوبارہ پیدا ہو رہی ہیں اور جن فتنوں کی طرف حضور اکرم ﷺ نے نشاندہی کی تھی وہ مختلف شکلوں کے ساتھ نئے نئے نام کے ساتھ وجود میں آئی ہیں جس طرح جو فتنے شروع زمانہ میں تھے اور جو فتنے پہلے زمانہ میں ہو گئے وہ فتنے نئے نام کے ساتھ نئے استائل کے ساتھ اور نئی تمہید کے ساتھ ڈکلیر ہو رہے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہیں معتزلہ نے یہی استدلال کیا تھا کہ ہم اپنی عقل کے مطابق چلیں گے شریعت ایک پرانی چیز ہے اس زمانہ میں جوبات کبھی ہو گی وہ اس زمانہ کے اعتبار سے ہے اور اب تو زمانہ آگے بڑھ رہا ہے اس لئے ذرا ہم کو اپنی سوچ کو بھی بدلانا پڑیگا لیکن اللہ جزاۓ خیر دے ان علماء کرام کو کہ انہوں نے اس کا ذروردار مقابلہ کیا ہے۔

شریعت تمام احوال کو لکھ کر متعین کی گئی

شریعت جس کو حق تعالیٰ شانہ اور حضور اکرم ﷺ نے متعین کیا ہے اور شریعت کی جو بنیاد متعین کی وہ اس زمانہ کو دیکھ کر ہی متعین کی ہے کہ شریعت محمدیہ ﷺ خاتم النبیین کے ہاتھ سے دیا جانے والا اسلام قیامت تک چلنے والا ہے جب

قیامت تک چلنے والا اسلام ہے تو قیامت تک آنے والے حالات کو پیش نظر رکھ کر ہی
حضور ﷺ نے ہر حکم جاری فرمایا ہے پھر ہم کون آگئے اس بات کا دعویٰ کرنے والے
کہ زمانہ اب تھوڑا سا ڈیلوپ ہو رہا ہے زمانہ ترقی کر رہا ہے زمانہ کی سوچ اور سسٹم پاور
بدل گیا اس لئے ہمیں بھی ذرا شریعت سے نجات شیش لینی پڑ گئی ہمارے ماں باپ کی تو
پر اپر ٹھیک نہیں ہے کہ ہم جو چاہے اسی طریقہ سے ہونے لگے۔

عورت کی نماز گھر میں ہی افضل ہے

حضور ﷺ نے تو بہت پہلے ہی فرمادیا تھا کہ عورت کی نماز کے لئے سب
سے بہتر اس کے گھر کی کوٹھڑی ہے، اور عورت کی نماز کا سب سے بڑا ثواب اپنے گھر
میں نماز پڑھنے پر ہے، اور پھر حضور ﷺ نے درجات مقرر کئے ہیں ابو داؤد شریف
کی ایک روایت ہے جس سے میں استدلال کر رہا ہوں حضور ﷺ نے اس میں
بالترتیب بیان فرمایا ہے، عورت گھر میں نماز پڑھنے تو زیادہ ثواب، اور گھر کے کمرہ میں
نماز پڑھنے تو اور زیادہ ثواب، اور اگر گھر کی کوٹھڑی میں نماز پڑھنے تو اس سے زیادہ
ثواب، اور اگر اس میں بھی پردہ لگا کر نماز پڑھنے تو اس سے زیادہ ثواب، اس سے سمجھ
میں آتا ہے کہ عورت جتنا گھر کی کوٹھڑی میں نماز پڑھنے گی اتنا زیادہ ہی اس کو ثواب
ملے گا۔ اس لئے میرے بھائیو یہ زمانہ اور یہ دور فتنوں والا دور ہے اس میں اگر عورتوں
کو مسجد میں بھیجا جائے گا تو فتنے ہی فتنے کھڑے ہونے گے۔

حضرت عائشہؓ کا فرمان

میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ ام المؤمنینؓ ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر حضور ﷺ کو ان حالات کا پتہ چلتا جو اس وقت وجود میں آئے ہیں تو حضور ﷺ عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکتے حضرت عائشہؓ یہ کب فرماتی ہیں جب خیر القرون کا دور ہے ابھی صحابہ باقی ہیں اسکے باوجود حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ وہ فتنوں کا موقع تھا اور فرمایا کہ اگر حضور ﷺ کو اس کا علم ہوتا تو عورتوں کو مسجد جانے سے روکتے اور اب تو چودہ سو صدیاں بیت گئیں اور کیسے کیسے اس زمانہ کے حالات ہو چکے ہیں ، اللہ اکبر، بس دعا کرنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں۔ امین۔

حضرت عائشہؓ زیادہ سمجھتی تھی نہ کہ ہم لوگ

حضرت عائشہؓ زمانے کو زیادہ سمجھتی تھی یا ہمارے جیسے بے وقوف لوگ حق بات کو سمجھتے ہیں؟ ہم عورتوں کے نیلام کرنے کو خیر خواہی کا نام دینے لگے کیا ہماری عورتیں اتنی سستی ہو گئیں؟ میرے بھائیو۔ امت پر جو فتنوں کا دروازہ کھل رہا ہے بدجنت ہے وہ آدمی اور بد قسمت ہے وہ آدمی جو اپنے آپ کو ان فتنوں میں ڈالے اور سعادت مند ہے وہ آدمی جو ان فتنوں کو سمجھتا ہے شیطان ہمیشہ غلط راستہ سے نہیں بہکاتا ہے، وہ کبھی کبھی اپنے راستہ سے بھی بہکاتا ہے، کبھی کبھی وہ نام اچھادیتا ہے اور پھر اس کا راز ٹخرا ب آتا ہے۔

ہمارے اسلاف کو عورتوں سے نفرت نہیں تھی

اس اعتبار سے آپ بتائیے کہ کیا ہمارے علماء کرام کو اس بات سے مخالفت ہے کہ عورتوں کو زیادہ ثواب ملے؟ کیا ہمارے بزرگان دین کو اس بات سے مخالفت ہے کہ عورتوں کو تراویح کا ثواب ملے؟ عورتوں کو جماعت کی نماز کا ثواب ملے؟ کیا انہوں نے ثواب کو امت کے مردوں کے لئے محدود کر رکھا تھا؟ وہ جانتے تھے کہ اس کے ذریعہ کیا فتنے رونما ہونگے اور اس کے ذریعہ کیا کیا باتیں وجود میں آئیں گی، ہمیں اپنی عورتوں کو یہ تلقین کرنا ہے کہ تم اپنے اپنے گھروں میں ہی رہ کر نماز ادا کرو قرآن پاک نے صاف اعلان کیا کہ۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ جَنَّ تَبُرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ
الْأُولَى۔

آپ ﷺ کی دورانی شی

اور ایک روایت مجھے بخاری شریف کے حوالہ سے یاد آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول ﷺ اعیکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہوئے ہیں وہ وہاں کے انوارات اور وہاں کی برکات کو بخوبی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ کی حقیقت نصیب فرمائے امین۔ اور حرمین کے انوارات ہم سب کو نصیب فرمائے امین، حق تعالیٰ شانہ حرمن کے معمولات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں مزاج حرم اور مزاج نبوت اور اعمال حرم جو حضرات صحابہ کرامؓ میں تھے وہ ہم سب میں عشق اور مسٹی کے ساتھ پیدا ہو۔ امین۔ تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہو گا کہ حضور ﷺ کا حجرہ آپ ﷺ کا کمرہ مسجد نبوی کے ساتھ لگا ہوا تھا ایسا لگتا ہے کہ گویا آپ ﷺ کا پہلا

قدم مسجد میں اور دوسرا قدم حجرہ میں، بس اتنا ہی فاصلہ تھا اور اب تو مسجد نبوی ہی میں آگیا آپ ﷺ نے اپنے اعتکاف کے لئے چادر کا خیمہ بنوالیا اور جب امہاۃ المؤمنین میں اس بات کا چرچہ ہوا تو حضرت زینبؓ نے اپنا خیمہ لگوایا دوسری زوجہ مطہرہ نے اپنا خیمہ لگوایا ہر زوجہ مطہرہ نے اپنا خیمہ الگ لگوایا حضور ﷺ نے یہ سب ماجرا دیکھ کر فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم یہ سب ایک دوسرے کے مقابلہ میں اس طرح کر رہی ہو حضور ﷺ نے اپنے اعتکاف کی چادر بھی لپٹوادی اعتکاف ختم فرمایا اور بعد میں اس کی قضافرمائی۔

ان باتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ بہت سے اعمال ظاہر میں بہت اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں ثواب کا کام معلوم ہوتا ہے لیکن اس کا انجام ایک سال بعد نہیں، دو سال بعد نہیں، پانچ سال بعد نہیں، کبھی نہ کبھی اس کا رزلٹ خراب آتا ہی ہے اگر اس کا رزلٹ چاہے ایک زمانہ کے بعد برا آنے والا ہوتا بھی اس کو روکنا ضروری ہے، جیسے کہ اعتکاف کرنا بہت اچھی چیز ہے بھلے اس وقت کسی بھی فساد کا امکان نہیں تھا لیکن مستقبل بعید میں ہو سکتا تھا اس کے ذریعہ کوئی فتنہ ہو جائے اس لئے آپ ﷺ نے اس سے بھی اس وقت توقف فرمایا، اس لئے میرے بھائیو امت میں بہت سے نئے نئے فتنے آرہے ہیں ڈاڑھی کے اعتبار سے لباس کے اعتبار سے اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے اس طرح کے بہت سے فتنے جنم لے رہے ہیں۔

جَدِيدٌ تَهْذِيبٌ وَّ حَضْرَتُ حَذِيفَةُ

حضرت حذیفہ ابن الیمانؓ کی روایت میں آتا ہے، یہ حدیث غالباً میں نے

پہلے بھی سنائی تھی کہ جب وہ روم گئے اور ان کے سامنے انگلش اسٹاکل میں کھانا رکھا گیا تو فرمایا کہ: **اَتَرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي بِهُؤْلَاءِ الْحُمَقَاءِ** : کہ کیا میں اپنے حبیب ﷺ کی سنتوں کو ان بے وقوف کی وجہ سے ترک کر دوں گا اور ایک ہم ہیں کہ ہم نے کب اور کس مقام پر اس طرح سوچا ہے ارے ہم ایک بات ذہن میں اتنا لیں ہم ان دشمنانِ اسلام کی کتنی ہی چاپلوسی کر لیں یہ ہم سے راضی ہونے والے نہیں ہیں قرآن پاک نے صاف اعلان فرمادیا ہے کہ آپ اہل کتاب کے پاس دلیل لے آؤ گے اور ان کو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرو گے مگر یہ تم سے راضی ہونے والے نہیں ہیں ان کا تو مقصد تو یہی ہے کہ یا تو کر سچن بن جاؤ یا یہودی بن جاؤ اور قرآن پاک نے فرمادیا ہے کہ **لَنْ تَرْضِيَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَالِكَ**) اللہ تعالیٰ ہمارے اسلام اور ایمان کی حفاظت فرمائے امین۔

صلیبیوں کی سازش سے ہوشیار رہیں

میرے بھائیو!! اس فکری جنگ سے میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ دشمنوں نے اسلام میں صلیبی، صہیونی، استعماری جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں ان ہتھیار کی جنگوں میں اپنے آپ کو مغلوب پایا تو اب ہمارا ذہن خراب کرنا شروع کر دیا اسلام کے ماننے والوں کو اور آنے والی نسل کو ان کا پریم و وڈ کر کے ان کو اسلام کے نام پر ہی مارا جائے اس لئے انہوں نے نیا اسلام پیش کیا ہے۔

اسلام نئی یا پرانی ہونے والی چیز نہیں ہے

میرے بھائیو۔ کیا اسلام کوئی ایسی چیز ہے کہ جو پرانا اور نیا ہو سکتا ہو؟ ارے یہ تو حضور پاک ﷺ کو بھی کوفر مایا گیا تھا : مَلَّةَ أَبِيْكُمْ أَبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ : اسلام کوئی نیا اور پرانہ نہیں ہے حضور ﷺ سے فرمایا گیا کہ اسلام کی بنیاد ہم نے تو بہت پہلے سے رکھ دی ہے نیا پرانا کچھ بھی نہیں ہے اسمیں مودرن اسلام اور پرانا اسلام نہیں چلتا اسلام کی بنیاد یہ جو حضرت محمد الرسول اللہ ﷺ قائم فرمائے گئے ہیں بس وہی صحیح ہیں وہی بنیاد یہی مضمبوط ہیں اور اسی پر امت رہے گی تبھی کامیابی کے ساتھ رہ سکتی ہے۔

آپ ﷺ کے ہی طریقہ میں نور ہے

یہی راستہ کامیاب ہے اسمیں نور ہے، حضور ﷺ کے بتائے ہوئے طریقہ پر چلنے میں نور ہے، اور اسی نور کے ذریعہ دنیا کی ظلمتیں اور دنیا کی اندھیریاں ختم ہو سکتی ہیں، مودرن اسلام ظلمت ہے، اندھیرا ہے اس کے ذریعہ تو دنیا میں اور اندرھیرا پھیلے گا دنیا میں ہلاکت اور بر بادی پھیلے گی بہر حال حضرت سعد ابن ابی وقاص کی اس روایت حضور پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے موقعوں پر جب کہ فتنے رونما ہوتے ہوں، ایسے حالات میں اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے اس لئے حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو دور رکھتا ہوں بلکہ بعض روایتوں میں تو آتا ہے کہ صحابہ کرام کو حضور ﷺ نے فرمایا کہ تم گھروں کے ٹاٹ بن کر رہو۔

قیامت کا انتظار کجھے

جب فتنوں کا دور دورہ ہو، لوگ نئے نئے طور پر کھڑے ہو جائیں، لوگوں میں فتنہ ہو جائے، اور چھوٹے چھوٹے چھوکرے مسئلے بنانے لگے ہو، (اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے کیونکہ ابھی انہیں اسلام کی صحیح بہنک اور بوجھی نہیں لگی) تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ **فَإِنْتِظِرِ السَّاعَةَ**: تو تم قیامت کا انتظار کرو کہ یہ قیامت کی علمتوں میں سے ایک ہے اس لئے ہمیں اسلام کی حقیقوں کو سمجھنا چاہیے اور محدثین اور مفتیان کرام قرآن و حدیث کی روشنی ہی میں بتلاتے ہیں آپ فتاویٰ رحیمیہ کھولکر دیکھ لیجئے حضرت اقدس مفتی عبدالرحیم صاحب لاچپوری نور اللہ مرقدہ نے اس کی تفسیر فرمائی ہے کسی بھی صورت میں ہمارے علماء دیوبند عورتوں کی جماعت کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔

عورتوں کے مسجدنہ آنے پر قوی دلیل

اگر عورتوں کا مسجد میں آنا ضروری ہوتا تو آپ ﷺ اپنی ازواج مطہرات کو لیکر تہجد کی نماز ادا فرماتے کمرے تو ساتھ ساتھ تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاؓ کو بلا لیتے جبکہ حضور ﷺ حضرت فاطمہؓ کے گھر پر جا کر جگاتے تھے کہ تم لوگ تمہاری تہجد کی نماز پڑھو، اگر جماعت سے اس طرح نماز پڑھنا ہوتی تو آپ ﷺ حضرت عائشہؓ کو اپنے گھر بلاتے حضرت خصہؓ کو بھی بلاتے لیکن نہیں بلائے پتہ چلا کہ عورت کی نماز اس کے گھر پر افضل ہے۔

حج میں عورت کہاں نماز پڑھے؟

میرے بھائیو! شریعت نے فرمایا کہ: وَقَرْنَ فِي يُوْتُكْنَ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبُرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اس لئے ہمارے علماء دیوبند کافیصلہ یہاں تک ہے کہ حج کے لئے بھی اگر عورتیں جائیں تو انہیں نماز اپنی ہوٹل ہی میں پڑھنی چاہیے اسی میں ان کو نماز کا زیادہ ثواب ہے۔ لوگ حرمین کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ وہاں پر عورتیں مسجد میں آتی ہیں اس لئے عورتوں کا مسجد میں آنا جائز ہونا چاہیے۔ اگر بات ایسی ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ پھر مسجد نبوی میں عورتوں کے لئے صلوٰۃ وسلام الگ سے پیش کرنے کا نام کیوں رکھا گیا؟ سیدھی سی بات ہے کہ حرم شریف میں مسئلہ پر قابو پانا دشوار تھا لیکن مسجد نبوی میں اس پر قابو پایا جا سکتا ہے اس لئے وہاں کا نام الگ رکھا گیا جس کے نتیجہ میں تمہاری بات الٹی ہو گئی۔ یہاں اس وقت حالات حاضرہ میں مردوں اور عورتوں کا انٹرنس بھی ہے پھر تراویح کے بعد چکن کی پارٹیاں ہوتی ہیں، اور عورتوں کو تو مشغلہ مل جائے گا۔

عورت گھر ہی کی زینت ہے

میرے بھائیو! یہ فتنے ہیں جو اس وقت نماز باجماعت کے نام سے اور عورتوں کی امامت کے نام سے اور ثواب حاصل کرنے کے نام سے امت میں پیدا ہو رہے ہیں عورت تو گھر ہی کی زینت ہے اس کو گھر ہی میں رہنے کے لئے کہا گیا ہے ہاں اپنے لئے اگر باہر نکلے تو اس کو اسکی ضرورت کے مطابق نکلنے کی اجازت ہے ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عورتوں پر لعنت فرماتے ہیں، ہم کیوں ایسے بن جائیں کہ ایسے

اعمال کرنے لگیں کہ ہم پر اور ہماری عورتوں پر اللہ کی لعنت بر سے لگے زندگی کی برکتیں ختم ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو کوسوں دور رکھے۔ فتنوں کا مرکز یا فتنے کا ذریعہ بننے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہماری نسلوں کی اور ہماری بستیوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے امین۔

وَصَلِّ اللَّهُ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْهُ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ
وَآخِرُ دُعَوَانَا انَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بسم الله الرحمن الرحيم

اقتباس

ہمارا حال بھی تقریبا ایسا ہی ہے بلکہ اس سے بھی برا ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کے مقابلہ میں برائیاں زیادہ ہیں لیکن اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو معاف فرمادیں گے یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہئے کہ اللہ تعالی پکڑ بھی فرماتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اِعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، وہ لوگ جن کے نامہ اعمال میں برائیاں ہوئی لیکن انہوں نے اپنی برائیوں کا اقرار بھی کیا ہوگا اپنی برائیوں کا اعتراف کیا ہوگا ان لوگوں پر اللہ تعالی کی رحمت اور بخشش ہوئی اور اعتراف کے لئے معرفت بھی ضروری ہے کسی بھی چیز کے قبول کرنے کے لئے اس کی حقیقت کا جاننا ضروری ہے اس کے بغیر آدمی بھی قبول نہیں کرتا۔

بسم الله الرحمن الرحيم

دنیا اپنے کوچ کا اعلان کرچکی ہے

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبی بعده وعلى
الله واصحابه الذين اوفوا عهده اما بعد۔

محترم بھائیو بزرگ او ردوستو۔

ایک مرتبہ اللہ کے رسول ﷺ کے ایک صحابیؓ نے شروع میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی اور پھر فرمایا کہ دنیا اپنے جانے کا اعلان کرچکی ہے دنیا نے اپنے فنا کی گھنٹی بجادی ہے اب وہ پیٹھ پھیر کر بھاگنے کے چکر میں ہے صحابہ کرامؓ چودہ سو سال پہلے یہ بات فرمार ہے ہیں اور فرمار ہے ہیں کہ دنیا کا صرف اتنا حصہ باقی رہا ہے کہ چائے پی کر آخر کے دو چار قطرے کپ میں چھوٹ جاتے ہیں دنیا شروع سے لے کر اب تک کے مقابلہ میں صرف اتنی ہی باقی رہی ہے اور جیسے بہت بعد میں آنے والا ان دو چار قطروں کو بہت کوشش کر کے پیتا ہے اسی طرح بعد میں آنے والے اس دنیا سے بہت محنت اور کوشش کر کے نفع اٹھائیں گے۔

پھر انہوں نے فرمایا کہ اس کے بعد لوگوں کو ایک ایسے گھر کی طرف منتقل ہونا ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وہ آخرت کا مکان ہے جنت ایسا مکان ہے جو کبھی ختم

نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے امین جہنم سے اللہ ہماری آپ کی ساری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے امین جنت میں ایسی چیزیں ہیں جس کا کبھی خاتمه نہیں ہوگا بلکہ موت جو انسان کو لذتوں سے محروم کر دیتی ہے اس کو بھی موت آجائے گی اور ایک بات یاد آ رہی ہے کہ موت بہت سی مصیبتوں کو ختم کر دیتی ہے بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے آپ بھی دیکھتے ہوئے نگے بے چارے بیماری سے پریشان رہتے ہیں یا فقر و فاقہ سے پریشان رہتے ہیں تو پھر وہ موت کی دعا کرتے ہیں کہ اس سے تو بہتر ہے کہ ہم اس دنیا سے ہی ختم ہو جائیں مرجائیں اس طرح انسان سوچتا ہے۔

موت کو بھی موت آ جائیں

موت جو راحتوں کو بھی ختم کرنے والی ہے اور مصیبتوں کو بھی ختم کرنے والی ہے حقیقی مصیبتیں اور حقیقی راحتیں اس کے بعد ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جنت نصیب فرمائیں (امین) تو اس موت کو بھی قیامت کے دن ایک مینڈھ کی شکل میں ذبح کر دیا جائیگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا جو صحیح مسلم شریف کی ایک روایت میں آیا ہے اعلان ہوگا کہ تم جہاں رہے ہوں وہیں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہو گے یہاں سے نکلا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس عمر پر تمہیں رکھ دیا ہے اس عمر سے نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو، اور نہ آگے بڑھ سکتے ہو ۳۳ سال جنتیوں کی عمر ہو گی اس سے نہ چھوٹے ہو نگے اور نہ بڑے ہو نگے کیوں کہ چھوٹے اور بڑے ہونے کا دارو مدار سال مہینوں اور دنوں کے گزرنے پر ہے اور مہینوں اور سالوں کا آنا اور جانا سورج اور چاند پر موقوف ہے اور قیامت قائم ہو جانے کے بعد نہ سورج ہوگا اور نہ ہی

چاند ہو گا سارا معااملہ ہی ختم کر دیا جائیگا: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ
وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرْزَوٌ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ:

جنت کا داخلہ ابدی داخلہ ہے

اور جنت میں جو شخص چلا گیا تو وہ بھی ہمیشہ کے لئے چلا گیا اس کو کوئی نکلنے کا
والا نہیں ہو گا اور جہنم میں چلا گیا تو وہ بھی ہمیشہ کے لئے چلا گیا وہاں سے نکلنے کا
کوئی فیصلہ نہیں ہو گا ہاں مؤمنین کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ تہذیب کے لئے ڈالا
جائیگا اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے (امین) وہ تاب ہم کہاں لا سکیں
گے۔

گنہگار مؤمنین کے لئے وقت جہنم ہو گی

میرے بھائیو۔ ہم میں کہاں طاقت ہے کہ ایک منٹ کے لئے بھی ہم جہنم
کا تصور کر سکیں، لیکن جو گنہگار مؤمنین ہیں اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ وقتی
طور پر جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ فرمایا ہے ان کو جہنم میں سے نکالا جائے گا اور پھر آب حیات
کی نہر میں غسل دیکر اس کو جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا اور پھر وہ شخص پورے اعزاز
و اکرام کے ساتھ جنت میں جائیگا اور اس کو کوئی غم نہیں ہو گا اور نہ کوئی ٹینشن ہو گا
لَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ؛ جنتی حضرات کے لئے نہ کوئی غم ہو گا اور نہ کوئی
ٹینشن۔

آدھا بدن خوبصورت اور آدھا کالا

حضرور ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے معراج کے سفر میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کا آدھا بدن بڑا خوبصورت تھا بہت اچھی چیزی اور بہت اچھے اعضا تھے اور دوسرا آدھا بدن اور آدھا دھڑ بہت زیادہ بد صورت ایسا لگتا تھا جیسے کوئی جلا ہوا ہوتا میں تعجب میں پڑ گیا کہ آدھا بدن اور پر کا بہت زیادہ خوبصورت اور آدھا بدن بہت زیادہ بد صورت یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے فرشتوں سے پوچھا جو میری خدمت میں تھے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو ایک فرشتہ نے حضور پاک ﷺ سے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنکے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ وَالْأَخْرُونَ اغْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا أَعْمَالًا صَالِحًا وَأَخْرَ سَيِّئًا؛ کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال برابر سا برابر ہیں ان کے اعمال میں برا بائیاں بھی اتنی ہی ہیں اور نیک اعمال بھی اتنے ہی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان اچھائیوں کے بدلہ میں ان کا اوپر کا بدن بہترین اور خوبصورت بنایا اور برا بائیوں کے نتیجہ میں ان کا نیچے کا بدن کالا رکھا ہے لیکن قرآن پاک کے اندر ایک آیت کریمہ ہے جو ان کے لئے خوشی کا پیغام ہے وہ آیت کریمہ یہ ہے عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ۔ یعنی ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا یقین ہے۔

خدا تعالیٰ کی شان رحمی

ارشاد ہے کہ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ کہ وہ لوگ جن کے اعمال نامہ میں نیکیاں اور برا بائیاں دونوں برابر ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف ضرور متوجہ ہو گا اگرچہ

کہ ان کا آدھا بدن کالا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایک نہر کی طرف اشارہ فرمائے کہ جاؤ اس طرف جاؤ اس نہر میں غوطہ لگاؤ، غسل کرو، اور غسل کر کے باہر نکلیں گے تو پورا بدن اتنا خوبصورت بن جائے گا کہ وہ جنت میں جانے کے قابل بن جائیں گے یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے؛ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوَبَ عَلَيْهِمْ؛ قرآن پاک میں لفظ، عَسَى، ضرور کے معنی میں آتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو ضرور معاف کرے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کی معافی کا نتیجہ ہو گا اللہ تعالیٰ ان کو آب حیات کی نہر کے اندر غسل دیکر پورا صاف فرمائے جنت میں داخل کئے جانے کے قابل بنائیں گے بعض بزرگوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ؛ هَذِهِ الْأَيْةُ أَرْجُحُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ؛ کہ یہ آیت قرآن مجید میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے۔

اور ہمارا حال بھی تقریباً ایسا ہی ہے بلکہ اس سے بھی برآ ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کے مقابلہ میں برا بیاں زیادہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو معاف فرمادیں گے اور میرے بھائیو، یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ پکڑ بھی فرماتے ہیں، صرف امید پر ہی زندہ نہیں رہنا چاہئے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ؛ وہ لوگ جن کے نامہ اعمال میں برا بیاں ہو گئی لیکن انہوں نے اپنی برا بیوں کا اقرار بھی کیا ہو گا ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش ہو گئی اور اعتراض کے لئے معرفت بھی ضروری ہے کسی بھی چیز کے قبول کرنے کے لئے اس کی حقیقت کا جاننا ضروری ہے اس کے بغیر آدمی قبول نہیں کرتا۔

گناہ کا اقرار انسان کی خوش نصیبی ہے

گناہ قبول کر لینا انسان کی خوش نصیبی ہے، میں خوش نصیبی کا لفظ بول رہا ہوں کہ گناہ کے کام کو گناہ کا کام جانا اور اس کو تسلیم کر لینا کہ میں نے گناہ کا کام کیا ہے اس طرح کاعمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی توفیق ہے اس لئے کہ آدمی گناہ کرے گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو یہ شیطانی اثر ہے جس کو قرآن یوں کہتا ہے : **أَفَمَنْ زَيَّنَ لَهُ سُوءً عَمَلِهِ فَرَأَهُ حَسَنًا ؟ (نوع ذ بالله)** وہ شخص جس کے سامنے اسکی بد عملیوں اور برا یوں کو اتنا مزین کر دیا گیا کہ وہ اپنی برائی کو بھی اچھا سمجھنے لگتا ہے اور اپنی برائی پر ڈٹا رہتا ہے اپنے غلط کام پر اکثر اڑا رہتا ہے اپنے غلط کام کو اچھا بتلانے کے لئے طرح طرح کے بہانے بناتا ہے اسی کو تو قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ، **سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا** : اسی طریقہ سے بہت سی آیات کریمہ میں اشارہ فرمایا گیا کہ گناہ کر لینا یا گناہ ہو جانی یہ کوئی اتنی خراب شیء نہیں ہے ہم انسان ہیں ہم سے گناہ تو ہو گا ہی لیکن گناہ کے بعد اس کا اعتراف اور اقرار نہ ہو تو پھر یہ اور زیادہ غلط بات ہے کیونکہ اس صورت میں اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہاں گناہ ہو جانے کے بعد اس کا اقرار کرنا توبہ کی توفیق کا ذریعہ ہے۔

گناہ کا اقرار گناہ کو ختم کر دیتا ہے

ایک کہاوت ہے : **الْإِغْتِرَافُ يَهْدِمُ الْإِفْتِرَافَ** : کہ گناہ کا اقرار کرنا گناہ کو مٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر ہاتھ پھیلا کر یہ کہے کہ اے اللہ ہم

نے گناہ کیا ہے اگر آدمی یہ اعتراف کرتا ہے تو اسکا یہ اقرار گناہوں کے ارتکاب کو معاف کر دیتا ہے اس سے گناہ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی اور آپ دنیا والے سے معافی مانگیں اور آپ نے (Sorry) کہہ دیا تو بڑے سے بڑا آدمی معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو میرے بھائیو۔ ارحم الراحمین ہے اس لئے اس کے سامنے ہمیں بہت رورو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے، یہی فرق تھا حضرت آدم اور شیطان کے درمیان، آدم نے فوراً اپنے گناہ کا اقرار کر لیا کہ: رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَâسِرِينَ : اور یہ معرفت کی بات ہے اور شیطان نے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا۔

اعتراف معرفت کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے

ایک بات ذرا غور سے سن لو!! کہ اعتراف اسی کو حاصل ہوتا ہے جس کو معرفت حاصل ہوتی ہے اور معرفت کیا ہے معرفت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانا اس کی کبریائی کا استحضار کرنا اسکا نام معرفت الہی ہے اور اس معرفت الہی کا آدمی کے اندر آنا بہت ضروری ہے آدمی گناہ کو گناہ اسی وقت مانتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو تسلیم کرتا ہے جب بندہ خدا تعالیٰ کی کبریائی کو مانتا ہو، اور اس کے دل میں یہ بات پیوست ہو جائے کہ الحکم الاحکام مطلقاً ہیں اس کی شان میں میں نے گستاخی کی تو پھر وہ گناہوں سے توبہ کرنے لگتا ہے بہر حال آیت کریمہ ہمیں بڑی امید دار ہی ہے روایت پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم اس دنیا سے آخرت کی طرف جاؤ تو جتنے اعمال کرنا تمہارے لئے ممکن ہے اتنی نیکیوں کو اور جتنی بھی

اچھائیاں ہوں ان سب کو ساتھ لے کر جانے کی کوشش کرو جیسا کہ انسان کے سامنے عمدہ اور بہترین غذا کیں ہوں تو وہ ان سب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

جہنم کی حقیقت

اور آگے ان صحابیؓ نے ہمارے لئے بڑی خطرناک بات بتائی، بتالیا کہ حضور ﷺ نے ہمارے سامنے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اور اس ارشاد میں جہنم کی حقیقت اور اس کی گہرائی کو واضح فرمایا ہے کہ جہنم اتنی گہری ہے اگر ایک پھر اس میں ڈالا جائے گا تو وہ پھر گرتے گرتے ست سال کے بعد جہنم کی گہرائی میں جائے گا، اور میرے بھائیو۔ دنیا کے ست سال نہیں بلکہ آخرت کے ست سال، اور حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو ضرور بھریں گے اور جہنم کتنی گہری ہے ابھی آپ نے سنا کہ آخرت کے ست سال تک اس میں کنکر جاتا ہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو بھریں گے ارشاد ہے: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَّتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٌ، کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی تو وہ کہہ گی کیا اور کچھ ہے، اتنی گہری اور اتنی خطرناک ہے جہنم، اللہ تعالیٰ ایسے مناظر سے ہم سب کی اور ہمارے والدین کی اور ہماری اولاد کی اور پورے عالم کے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرمائیں، امین۔

کچھ تذکرہ جنت کا بھی

اسی طرح حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں بھی آدمی جائیں گے اور فرمایا کہ جنت کی دو چوکھوں کے درمیان چالیس سال کی بقدر مسافت ہوگی آپ نے دیکھا ہوا گا کہ ایک دروازہ ہوتا ہے اور اس کی دو چوکھت ہوتی ہے پرانے دروازوں کو آپ

نے دیکھا ہوگا کہ دروازہ کھلو تو اس کے دو پٹ ہوا کرتے تھے آدھا کھولتے ہیں اور آدھا بند کرتے ہیں تو فرمایا کہ جنت کی دو چوکھوں کے درمیان چالیس سال کی مسافت ہوگی جب دروازہ اتنا بڑا تو اندر کی جنت کتنی زیادہ بڑی ہوگی۔ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے صاف کرنے کے لئے جہنم میں ڈالیں گے اور اس کے تمام گناہ دحل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس ادنی جنتی کو بہت بڑی جنت دیں گے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے دس گناہ بڑی جنت دیں گے اور یہ سب سے نچلے درجہ کے آدمی کو دی جائے گی، اور وہ بھی ایسے آدمی کو جس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہ ہوگی اللہ تعالیٰ صرف کلمہ توحید کی نسبت پر اس کو اتنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے حق تعالیٰ شانہ کلمہ کی نورانیت ہم سب کو بھی نصیب فرمائے امین۔

آپ ﷺ کی سفارش پر جہنم سے نجات

فرمایا کہ جنت میں ایک دن ایسا رہے گا جس دن آپ ﷺ امت مسلمہ کے ان افراد کی سفارش فرمائیں گے جو اپنے گناہوں کی سزا بھگتے کے لئے جہنم میں گئے ہوئے ہوں گے آپ ﷺ کی سفارش پر ان کو جہنم سے نکالا جائے گا اور حضور ﷺ کی سفارش کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ فرمائیں گے۔

صحابہ کرامؓ کی قربانیاں

میرے بھائیو۔ صحابہ کرام اتنی قربانیاں دیکھ اور اتنے مجاهدے لے کر چلے، فرماتے ہیں کہ ہم سات لوگ تھے ہمارے پاس کھانے کے لئے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا خشک درختوں کے پتے چبا چبا کر ہمارے اونٹوں کا حال برا ہو گیا اگر آدمی کوئی خشک چیز

کھاتا ہے تو اسکے ہونٹ پھٹنے لگتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا ہم پتے چباتے تھے اور وہ پتہ بھی تر نہیں، بلکہ خشک پتے، جس کی وجہ سے ہمارے جبڑے پھٹ جایا کرتے تھے اور فرماتے ہیں کہ ہم ایک چادر کے دلکشے کرتے تھے ایک دلکشا ہم استعمال کرتے تھے اور دوسرا ہمارا ساتھی استعمال کرتا تھا یہ صحابہ کرام کے حالات تھے اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک چادر تو بچھانے کے لئے ہے اور دوسری چادر اس کے اوپر زیب وزینت کے لئے ہوتی ہے ایک چادر دیواروں اور دروازوں پر ہوتی ہے سب الگ الگ چادریں ہیں پر دوں کے لئے بھی ہم اتنا مہنگا کپڑا لاتے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ۔

بی بی فاطمہ کے گھر کے پردے پر ناراضگی

مجھے ابو داؤد شریف کی ایک روایت یاد آ رہی ہے اس کو بھی ذکر کر دینا بہت ضروری ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ ایک مرتبہ حضرت فاطمہؓ کے گھر خیریت پوچھنے کے لئے تشریف لے گئے اور جیسے ہی آپ ﷺ قریب آئے تو واپس تشریف لے گئے، دروازہ پر جو پردہ لٹک رہا تھا اس کو دیکھ کر آپ ﷺ واپس چلے گئے، حضرت علیؓ بہت فکرمند ہوئے کہ فاطمہؓ ابھی تمہارے والد صاحب تشریف لارہے تھے، اور پھر لکھتا ہوا پردہ دیکھ کر واپس تشریف لے گئے حضرت فاطمہؓ نے حضرت علیؓ سے کہا کہ جاؤ پوچھو کہ ابو جان واپس کیوں چلے گئے؟ حضرت فاطمہؓ آپ ﷺ کی جگرگوشہ تھیں، آپ ﷺ کی لخت جگر تھیں صحابیہ تھیں اور اس بیٹی سے اتنی محبت ہوئی تھی کہ فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا یک حصہ ہے اس بیٹی کو بھی کتنی زیادہ محبت ہوگی حضرت فاطمہؓ سے

برداشت نہیں ہوا، حضرت علیؓ کو بھیجا حضرت علیؓ نے حضور ﷺ کی منت سماجت کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ واپس تشریف لے آئے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے دروازے پر زیب وزینت والا پردہ دیکھا یہ محمد ﷺ کی اولاد کے لئے مناسب نہیں ہے، محمد ﷺ کی اولاد کے لئے مناسب نہیں ہے کہ ان کے پاس دنیا آئے اس لئے کہ وہ آنے والوں کے لئے ایک نمونہ بننے والی ہے، ہم دنیا کو قناعت سکھانے والے ہیں اور یہ زینت والا پردہ فضول خرچی ہے۔

ڈیکوریشن میں مال نہیں لگانا چاہئے

میرے بھائیو!! اندازہ لگائے ہمارے گھروں میں جو پردہ وغیرہ کا کپڑا ہوتا ہے وہ ہمارے پہنے ہوئے کپڑوں سے بھی زیادہ مہنگا ہوتا ہے اسلام زیب وزینت کا انکار نہیں کرتا ہے لیکن ڈیکوریشن میں اتنا مال لگانا اور فضول خرچی کرنا مناسب نہیں ہے دیکھو ڈیکوریشن تو ہمیں ملے گا لیکن انشاء اللہ جنت میں ملے گا جنت میں اللہ تعالیٰ نے زیب وزینت رکھی ہے۔ ذرا اچھے مناظر کے لئے ہو تو معمولی سا ہو جائے تو کوئی بات نہیں لیکن ٹکلشن اور پردہ کے پیچھے اتنے پیسے بر باد کرنا ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی پوچھ ہوگی۔ پردہ اپنی حقیقت کے لئے ٹھیک ہے اور اسکیں حقیقت یہ ہے کہ اندر کی چیز باہر نظر نہ آئے اور یہ ضرورت جس کپڑے سے پوری ہو جاتی ہو وہ لگائے، دیکھنے والے کو ذرا سا ٹھیک لگے بس کافی ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت زیادہ مال دولت خرچ کرنا فضول خرچی ہے اور قرآن پاک کہتا ہے کہ: إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَّاطِينِ : کہ بلا ضرورت مال خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں

قربانیاں وقتی طور پر ہوتی ہیں

صحابہ کرام کی حالت تو یہ ہوئی انہوں نے اپنے آپ کو اس دین کی خاطر بھوکا رکھا پیا سارکھا وہ اللہ کے اس علم کو لیکر بڑھتے ہی گئے آگے وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور پاک ﷺ کے دور میں اتنی قربانیاں ضرور اٹھائیں اتنی محنتیں ضرور کیں لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتوحات کا دروازہ کھولا ہے، فَمَا أَصْبَحَ اللَّهُمَّ مِنْ
أَحَدٍ إِلَّا أَصْبَحَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرِ مِنَ الْأَمْصَارِ: یہ ایک سبق دینا چاہتے ہیں کہ قربانیاں آدمی کو ہمیشہ نہیں دینا پڑتی ہیں قربانیاں وقتی طور پر دینا پڑتی ہیں مجاہدے بہت کم برداشت کرنے پڑتے ہیں، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور ﷺ کے ساتھ بڑی قربانیاں دیں، بہت مجاہدے برداشت کئے لیکن ہم جو سات صحابہ تھے ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی صوبہ کا گورنر بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت سے ہم سب کو نوازا۔

بزرگوں کی ابتدائی زندگی کو دیکھنا چاہئے

اسی لئے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ علماء اور بزرگوں کی، اللہ والوں کی ابتدائی زندگی کو دیکھا کرو، ان کی آخری زندگی کو مت دیکھا کرو، ہم میں سے بہت سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اچھا ہے ان بزرگوں کا ایک پیر گھر میں اور ایک پیر گاڑی میں ہوتا ہے، لیکن ان کی طالب علمی کی زندگی میں انہوں نے قرآن و حدیث پڑھنے کے لئے جو تکالیف برداشت کی ہیں بھوکے رہکر، پیاسے رہکر، اپنے گھر کو چھوڑ کر جو زندگی گزاری ہے اس کو دیکھا کرو۔

اللہ والے اپنے گھر کی تمام نعمتوں اور عیش کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جماعتوں میں نکلتے ہیں۔ طلب علم کے لئے اللہ اللہ، کرنے کے لئے خاقا ہوں میں نکلتے ہیں پیر و مرشد جو اپنے بزرگوں کے پیر دباتے ہیں ان کے مجاہدے برداشت کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان پر فتوحات کا دروازہ کھوتا ہے اس لئے بزرگوں نے بڑی اچھی نصیحت فرمائی کہ بزرگان دین کی آخری زندگی کو وجود دیکھتا ہے وہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے ان کی ابتدائی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ کتنے مجاہدوں کے ساتھ وہ زندگی برداشت کرتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ کامیاب ہوتا ہے یہ ٹکڑا ہمیں بتاتا ہے کہ جو اپنی زندگی کی ابتداء میں مجاہدے برداشت کرے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو راحت نصیب فرماتا ہے۔

بہر حال صحابہ کرامؐ نے دنیا کی حقیقت کو سمجھایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی دنیا کی حقیقت کی معرفت نصیب فرمائے (امین) اور اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور مجاہدہ والی زندگی بہت اچھی توفیق کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجاہدہ کے بغیر بدایت کا ملنا بھی مشکل ہے، ارشاد ہے کہ :وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَهُدْيَنَّهُمْ سُبْلَنَا : بدایت کاملہ تبلیغی ہے جب آدمی دنیا میں روکھی سوکھی بسر کرتا ہے اپنے نفس پر بہت زیادہ بریک لگاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کی حقیقت نصیب فرمائے۔ امین

وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَلْهَمِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

وَآخِرَ دُعَوانَا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرت سعید بن عامر رضي الله تعالى عنه

کا واقعہ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم
 اما بعد، اخرج الامام المسلم عن النبي ﷺ انه قال يدخل الجنة
 الفقراء قبل الاغنياء بخمس مائة عام او كما قال عليه الصلوة
 والسلام۔

محترم بھائیو بزرگوار دوستو۔

شام ایک اسلامی مملکت کا نام ہے جس کو آج کل کی زبان میں سیر یاء کہا جاتا ہے اور میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت شام کا اسلامی دار الخلافت حمص تھا جب خلافت کا دور چلتا تھا اس وقت وہاں اسلامی گورنر قیام پذیر ہوا کرتے تھے اور وہاں رہ کر پوری حکومت کی ذمہ داری سنپھالتے تھے حضرت عمر بن خطابؓ کا جب دور آیا تو حضرت عمرؓ مدینہ منورہ میں قیام فرماتھے۔

بہر حال حمص (شام) سے ایک وفد حضرت عمرؓ کی خدمت میں ملاقات کی غرض سے آیا حضرت عمر بن خطابؓ نے آنے والے وفد سے کہا کہ تمہارے حمص شہر میں جتنے لوگ غریب اور فقیر ہیں ان کی ایک فہرست بناؤ کر مجھے دو، تاکہ میں ان کا تجزیہ اور ان کی انکو ائمہ کر کے ان کی کچھ خدمت کر سکوں، اور مدد کر سکوں، حضرت عمرؓ کی ایک خاص

صفت یہ تھی کہ وہ اپنی رعایا کے بارے میں بہت معلومات رکھتے تھے، ان کے اخلاق کی بھی ان کی مالیت کی بھی اور ان کی ضرورتوں کی بھی۔ چنانچہ اس وفد نے پوری فہرست تیار کر کے حضرت عمر کی خدمت میں پیش کی حضرت عمر کیے بعد دیگرے نام دیکھتے گئے اور ایک نام پر جا کر آپ کی آنکھیں دنگ رہ گئیں، اور وہ نام تھا سعید بن عامرؓ کا۔ یہ جو سعید بن عامر تھے یہ حضرت عمر کی طرف سے شام کے گورنر بنائے گئے تھے گویا کہ حصہ شہر کے چیف منستر تھے ایک ہوتا ہے پرانے منستر اور ایک ہوتا ہے چیف منستر ظاہری بات ہے کہ چیف منستر کا تو اپنا ایک مقام و مرتبہ ہوتا ہے اس کی ایک الگ گاڑی ہوتی ہے اس کا ایک الگ مکان ہوتا ہے۔ اور اس کے آگے پیچھے حشم خدم سب کچھ ہوتے ہیں تو وہ وہاں کے گورنر تھے، اور حصہ کے وفد نے ان کا نام غریبوں کی فہرست میں تیار کر کے دیدیا تھوڑی دیر کے لئے حضرت عمر نے سوچا کہ شاید اس نام کا اور کوئی آدمی ہوگا اس لئے کہ ایک نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں حضرت عمر نے وفد سے پوچھا کہ سعید بن عامر کون ہیں؟ تو کہا کہ امیر المؤمنین آپ ہی کی طرف سے مقرر کئے ہوئے گورنر ہیں پوچھا کہ کیا صحیح کہہ رہو؟ کہا کہ ہاں پوچھا کہ یہ غریب اور فقیر ہیں تم نے ان کا غریب اور محتاجوں کی لسٹ میں نام لکھا ہے تو اس وفد نے کہا کہ اتنے غریب اور اتنے محتاج ہیں کہ کئی کئی دنوں تک ان کے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا ہے حضرت عمرؓ اور زیادہ تعجب میں پڑ گئے۔

حضرت عمرؓ کا ہدیہ بھیجننا

حضرت عمرؓ نے فوراً ایک تھیلی منگوائی اور ایک ہزار دینار اس میں رکھے اور

حضرت سعید بن عامرؓ کو ہدیہ بھیجا اور وہ ایک ہزار دینار، بہت بڑی رقم تھی، آج کے حساب سے بھی اگر دیکھا جائے تو ایک دینار کے سامنے آپ کا پاؤ نہ بھی کوئی کام کا نہیں ہے پاؤ نہ کے اگر ستر بنتے ہیں تو اس کے ایک سوتیس بنتے ہیں یا ایک سو چالیس تک اس کا دام جاتا ہے اس لئے کہ وہ سونے کی کرنی ہے اور دوسرا کرنیوں میں چاندی ڈالی جاتی ہے اور سونا چاندی کے مقابلہ میں تو مہنگا ہی ہوتا ہے تو ایک ہزار دینار حضرت عمر بن خطابؓ نے ایک تھیلی میں پیک کر کے وفد کو دیئے اور کہا کہ حضرت سعید بن عامر کو کہنا کہ حضرت عمر بن خطاب نے تمہارے لئے ہدیہ میں بھیجا ہے۔

ہدیہ لے کر حضرت سعید بن عامرؓ کا حال

بہر حال جب حضرت سعید بن عامرؓ نے عمر بن خطابؓ کی طرف سے آئی ہوئی تھیلی کو دیکھا تو حضرت سعید بن عامرؓ اس کو دور کرنے لگے اور انا لله وانا الیہ راجعون پڑھ کر دھاڑھے مار مار کر رونے لگے گھر میں جواہیر محتزم تھیں وہ گھبرا گئیں کہ اچانک میرے شوہر محترم نے چھینیں مارنا کیوں شروع کی؟ آکر پوچھنے لگی کہ کیا کوئی بڑا حادثہ ہو گیا ہے، امیر المؤمنین کی طرف سے یہ لوگ واپس آئے ہیں تو کیا امیر المؤمنین کا انتقال ہو گیا کہ تم اتنے زور سے چینچ مار کر رور ہے ہو، کہا کہ نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کوئی کام ہوا ہے غور سے سنئے۔ فرمایا کہ امیر المؤمنین کے انتقال سے بھی بڑھ کر ایک حادثہ پیش آیا ہے پوچھا کہ کیا مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت آپڑی ہے؟ کہا کہ نہیں اس سے بھی بڑی مصیبت آئی ہے کہا کہ بتاؤ تو سہی، بات کیا ہوئی ہے کہا کہ اپنے گھر میں دنیا آگئی ہے اور اپنا گھر اب فتنوں کا مرکز بن جائیگا اب ہم اپنے آپ

کو ان فتنوں سے کیسے بچائیں گے اس لئے کہ وَأَغْلِمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ
وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ اور فرمایا، الْمَالُ وَالبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور فرمایا انما
اموالکم وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اب کیا کریں گے دیکھنے تربیت کیسی ہو رہی ہے وہ تو سمجھی
ہی نہیں اس لئے کہ وفد سامنے بیٹھا ہوا تھا تو سامنے کیسے آئیں گی وہ تو دروازے کے پیچھے
سے ہی بات کر رہی تھی اس کو نہیں معلوم تھا کہ وفد ایک ہزار دینار لے کر آیا ہے اور اس
ایک ہزار دینار کے آنے کی بنابر پیرے شوہر محترم اتنے زیادہ پزمردہ ہو گئے ہیں اور
اتنی زیادہ بے چینی ہو رہی ہے وہ کچھ نہ کچھ سمجھی ہو گی لیکن دنیا آگئی ہے کہنے سے پوری
بات سمجھ میں نہیں آئی، اس لئے کہ دنیا کا لفظ تو صرف پیسوں کے لئے نہیں بلکہ اور بھی
چیزوں کے لئے بولا جاتا ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا جمع ہو گئی، مراد اس سے
پہلے اور لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے۔

بیوی نے کہا کہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرو، اس میں گھبرا نے کی کیا بات ہے، اب
تربیت کی جا رہی ہے کہا کہ میں اس دنیا کو دور کرنے کی کوشش تو کروں گا لیکن اکیلا میں
کوشش نہیں کر سکتا جب تک تمہارا ساتھ نہ ہو، کیا تم میری مدد کرنے کے لئے تیار ہو؟
تاکہ میں اور تم اس مصیبت سے نج جائیں۔ کہا کہ شوہر کی مدد کرنے کے لئے بیوی
کیوں تیار نہ ہو، کہا کہ آؤ دیکھو یہ ایک ہزار دینار کی تھیلی آئی ہے یہ بہت خطرناک اور
فتنه والی تھیلی ہے اب اس کو اپنے گھر میں سے دور کر دینا ہے اور اس کو تقسیم کر دینا ہے کیا
تم میرا اس میں ساتھ دیتی ہو اب وہ تو زبان دے چکی تھی اس نے کہا کہ ہاں میں
ساتھ دینے کے لئے تیار ہوں چنانچہ اس کو چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں پیک کر کے لوگوں

کے لئے تقسیم کر دیا گیا وہ بیوی بھی ویسی ہی تھی صاحبیٰ کی بیوی تھی سعید بن عامرؑ کی بیوی تھی اللہ کے برگزیدہ بندے کی بیوی تھی۔

فقیری میں با دشا، ہی

سنئے با دشا، ہی میں فقیری کیسے ہوتی ہیں میں آپ کو بتلاتا ہوں فقیری میں لوگ با دشا، ہی کرتے ہیں جیسے حضرت سعید بن عامرؑ نے ان پیسوں کو تقسیم کر دیا اور با دشا، ہی کا ثبوت دیا اور جیسے ہمارے علماء کرام مولانا علی میاں صاحب ندویؒ کے بارے میں آتا ہے کہ کویت اور دیئی کی حکومت نے ان کو تمغہ اور میڈل دینے کے لئے ایک اپیشل ہوائی جہاز بھیجا تھا پھر بھی حضرت مولانا علی میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو میڈل اور تمغہ میرے نام ہے اس کو مدارس اسلامیہ اور غرباء کے نام خرچ کر دیا جائے کروڑوں روپیہ کا میڈل اور تمغہ تھا اس کو اللہ کے راستہ میں خرچ کر دیا، اسے کہتے ہیں فقیری میں امیری اور فقیری میں با دشا، ہی۔

حضرت عمرؓ کا حمص شہر کا دورہ

اب اسی واقعہ کو میں آگے بڑھاتا ہوں ایک مدت گزری حضرت عمرؓ ڈائیریکٹ حمص تشریف لائے حضرت عمرؓ تو دورہ کرتے تھے ان کی حکومت کا زمانہ دس سال سے زائد رہا ہے خالی ایک جگہ بیٹھنے کی رہتے تھے اور دورہ بھی کرتے تھے تو ایسا نہیں کہ ہندوستان کا وزیر اعظم دنیا بھر میں گھومتا ہے صرف مہماں نوازیوں کے حاصل کرنے کے لئے، ورنہ اسے یہی معلوم نہیں ہے کہ ہندوستان کے دیہاتوں اور شہروں

کا کیا حال ہے، لیکن حضرت عمر بن خطابؓ اپنی پوری حکومت کا دورہ کرتے تھے اپنی رعایا کی حفاظت کے لئے اور ان کے حالات معلوم کرنے کے لئے، چنانچہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطابؓ حمص تشریف لائے۔ حمص جا کر ایک جگہ پڑا وڈا لا اور پوری رعایا میں اعلان کروایا کہ میں تم سب لوگوں سے ایک انکو اتری کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارا گورنر کیسا ہے تاریخ کی کتابوں میں حمص شہر کا نام جھوٹا کوفہ بھی ملتا ہے جو بغداد کا ایک شہر ہے اور کوفہ میں عموماً باغی لوگ ہی بستے ہیں یعنی بغاوت کرنے والے بدمعاش قسم کے لوگ اور یہی کوفہ وہ جگہ ہے جس نے حضرت امام حسینؑ کو بھی شہید کر دیا تھا۔

تو حمص کے لوگوں میں بھی تھوڑی بہت بدمعاشی تھی اور بدمعاشی یہ تھی کہ وہ لوگ شکایت کرنے کے زیادہ عادی تھے کچھ لوگوں کی طبیعت ایسی رہتی ہے کہ وہ شکایت ہی کرتے رہتے ہیں کسی کے بارے میں بھی۔ جیسے کچھ مصلیوں کی عادت ہوتی ہے کہ امام صاحب کی شکایت ہی کرتے رہتے ہیں اور کچھ بیویوں کی عادت ایسی رہتی ہے کہ کمیٹی والوں کی ہی شکایت کرتے رہتے ہیں اور کچھ بیویوں کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ ہر گھر پر جا کر اپنے شوہروں کی ہی شکایت کرتی رہتی ہیں اور کچھ باپ کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ ہر ایک کے سامنے ہمیشہ اپنی اولاد ہی کی شکایت کرتا رہتا ہے کہ میرا لڑکا ایسا اور میری لڑکی ایسی ہے اور میرا بھائی ایسا ہے، کچھ لوگوں کی طبیعت ہی بن جاتی ہے تو حمص والوں کی عادت تھی کہ وہ گلے شکوے زیادہ کیا کرتے تھے حضرت عمر کو معلوم تھا اس لئے حضرت عمرؓ نے ان کو بلا یا اور فرمایا کہ چلو بتاؤ تمہارے گورنر کی کوئی شکایت

ہے انہوں نے تو شروع کر دیا۔

آپ رضی اللہ عنہ سے متعلق شکایتیں

اور ان کے جوابات

چنانچہ ان لوگوں نے کہنا شروع کیا اور کہا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سعید بن عامر جو تمہاری طرف سے ہمارے پاس گورنر بنائ کر کھے ہوئے ہیں ان کی حالت تو یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر گھر میں جاتے ہیں تو نو دس بجے باہر آتے ہیں اس زمانہ میں گھٹری نہیں تھی کہ نو دس بجے کا وقت میں اپنی زبان میں تعبیر کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ جب سورج چڑھ جاتا ہے اور اچھی خاصی دھوپ ہو جاتی ہے اس وقت تو باہر آتے ہیں یہ امیر المؤمنین ہے صحیح سوریرے آجانا چاہئے اور باہر کر کر لگا کر بیٹھ جانا چاہئے۔ حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے صحابی حضرت عمر بن خطابؓ ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ ایک طرف کی بات سن کر کبھی فیصلہ نہیں کرنا چاہئے۔

سعید بن عامرؓ کو بلا یا اور فرمایا کہ تمہاری قوم اس بات کی شکایت کر رہی ہے کہ تم سورج کے چڑھنے کے بعد گھر سے نکلتے ہو، اس کی جواب دہی کرو، چیمبر میں کھڑے ہو جاؤ، اور جواب دو۔ سعید بن عامرؓ نے فرمایا کہ اب تک میں اپنی ایک عادت اور حالت کو چھپانا چاہتا تھا لیکن آج اس کی ضرورت پڑ گئی اس لئے آج میں اس کا جواب دینے کے لئے مجبور ہوں، فرمایا کہ امیر المؤمنین میرے گھر میں کوئی خادم نہیں ہے اگرچہ میں گورنر ہوں لیکن میرے گھر میں کوئی کام کرنے والا یا کام کرنے والی نہیں ہے

اور میری بیوی اکثر بیمار رہتی ہے اس لئے میں فتح پڑھ کر گھر جاتا ہوں میں خود آٹا گوندھتا ہوں میں خود روٹی بناتا ہوں، خود کھانا بناتا ہوں اور سب کام ہونے کے بعد وضو کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کی حالت کے لئے باہر آتا ہوں تو اس میں دیرتو لگ ہی جائیگی حضرت عمر بن خطابؓ کے آنکھوں میں آنسو آگئے، اور ڈاڑھی مبارک تر ہو گئی کہ میرے ایک گورنر کی حالت یہ ہے۔

قوم سے اور آگے ایک سوال ہوا کہ اور کچھ شکایت ہے؟ کہا کہ ہاں ایک شکایت اور ہے کہ مہینہ میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس دن نماز کے اوقات کے علاوہ دوسرے وقت میں سعید بن عامر بالکل باہر نہیں آتے ہیں، روزانہ تو کم از کم سورج اوپر چڑھنے کے بعد تو آجاتے ہیں لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ سوائے نمازوں کے اوقات کے وہ باہر آتے ہی نہیں ہے، حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ سعید جواب دو، فرمایا کہ امیر المؤمنین میرے پاس صرف ایک جوڑا کپڑے ہیں، مہینہ میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ میں اس کو دھوتا ہوں، اور جب تک یہ سوکھتے نہیں ہیں، تب تک میں دوسرے کپڑے نہیں پہن سکتا ہوں، اس لئے میں مہینہ میں ایک دن نہیں بکتا ہوں، حضرت عمرؓ کو اور زیادہ آنسو آگئے، اور یہ خوشی کے آنسو تھے، اس کو میں آگے سمجھاتا ہوں۔

اور پھر حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا کہ اور کوئی شکایت ہے؟ کہا کہ ہاں ایک شکایت ہے کہ رات میں یہ کسی کو ملنے کو تیار ہی نہیں ہوتے ہیں پوچھا گیا کہ سعید کیا یہ سوال صحیح ہے؟ اس کا جواب دو، حضرت سعید بن عامرؓ نے کہا کہ یہ بھی میں بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن آج میری انکوائری ہو رہی ہے اس لئے میں بتا رہا ہوں کہ میں نے دن

اور رات کے حصے کر رکھے ہیں دن میں اپنے آپ کو مسلمانوں کی خدمت کے لئے لگاتا ہوں اور رات کو میں اپنے اللہ کے سامنے تو بہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی فیصلہ مجھ سے غلط ہوتا ہے تو دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو مجھے معاف فرمادے اور کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے نیک بندے دن میں شہسوار اور رات میں عبادت کرنے والے ہوتے تھے فرمایا کہ میں بھی ایسا ہی بننا چاہتا ہوں، حضرت عمر نے کہا کہ الحمد للہ۔

حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ کیا اور کوئی شکایت ہے؟ کہا کہ ہاں ایک شکایت ہے اور وہ یہ ہے کہ پوری مجلس لگی ہوتی ہے اور ان پر اچانک غشی اور بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور ایسی بیہوشی طاری ہو جاتی ہے کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں اور کیا سنارہ ہے ہیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اس کا کچھ بھی ان کو احساس نہیں ہوتا ہے اور غفلت کا عالم چھا جاتا ہے حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ سعید بات صحیح ہو رہی ہے؟

کہا کہ ہاں امیر المؤمنین بات بالکل صحیح ہو رہی ہے فرمایا کہ امیر المؤمنین ایک وقت تھا میں اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا مکہ کی وادی میں میرے سامنے ایک منظر پیش آیا تھا کہ کافروں اور مشرکوں کا ایک لشکر حضرت خبیبؓ کو شہید کر رہا ہے اور حضرت خبیبؓ کے ایک ایک انگ کو کاٹ رہا ہے اور کاٹ کاٹ کر مزے لے رہا ہے میں وہاں کھڑا اس منظر کو دیکھ رہا تھا لیکن میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکا مجھے ہمیشہ جب کبھی یہ منظر میرے سامنے آتا ہے تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں قیامت کے دن مجھے سے یہ تو نہیں پوچھیں گے کہ میرے محمد ﷺ کے ایک شیدائی کا اور میرے محمد ﷺ کے ایک صحابی کا اس

طرح قتل ہو رہا تھا اور تم اس طرح دیکھتے رہ گئے جب یہ منظر میرے سامنے آتا ہے تو پھر مجھ پر ایک دم سے غشی اور بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے حالانکہ وہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے اور حدیث ان کے سامنے بھی تھی کہ، الْإِسْلَامُ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، کہ اسلام لانے کے بعد زمانہ جاہلیت کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن دل کی خشیت اور خوف ان کے اندر اتنا تھا اس وقت کا بھی خوف محسوس کرتے تھے۔

حضرت عمرؓ نے یہ سن کر اپنے دل کے اندر اتنی خوشی محسوس کی فرمایا کہ الحمد للہ، میں نے جس کو مسلمانوں کی حکومت کے لئے گورنر بنایا ہے وہ بہت بہترین آدمی ہے مجھے اطمینان ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے یعنی میرا انتخاب اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے حضرت عمرؓ جب واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک ہزار دینار کی تھیلی دوبارہ بھیجی پہلے جو بھیجے تھے وہ تو انہوں نے تقسیم کر دیئے تھے حضرت عمرؓ نے دوبارہ خوش ہو کر ایک ہزار دینار کی تھیلی بھیجی کہ ایسے لوگ ہیں تو ان کی تو خدمت کرنی چاہئے جب یہ دینار پہلو نچے تو گھر میں صرف بیوی اور شوہر دونوں اکیلے تھے تو بیوی نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ایک ہزار دینار آگئے ہیں اب آپ کو روزانہ اپنا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ روزانہ صبح میں روٹی پکاتے ہو، آٹا گوندھتے ہو کپڑے خود سے دھوتے ہو، ایک ہزار دینار آگئے ہیں کوئی ایک خادم خرید لو۔ میرے بھائیو!! فرمایا کہ میری بیوی کیا تو اس بات کو پسند نہیں کر سکی کہ ہم اس ایک ہزار دینار کو کسی ایسے بنک میں رکھ دیں کسی ایسی ہستی کے حوالہ کر دیں جو سخت ضرورت کے موقع پر ہم کو اور زیادہ کر کے واپس دے اور ضرورت کے وقت ملنے والی چیز کی قیمت زیادہ ہی

ہوا کرتی ہے بیوی سمجھ نہیں پائی کہا کہ اگر ایسا ہوتا بہت اچھا ہے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک ہزار دینار اللہ تعالیٰ کو قرض حسنے کے طور پر دیدیئے جائیں، مَنْ ذَالَّدِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِّفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، بیوی بھی صحابی کی بیوی تھی تربیت پائی تھی فوراً تیار ہو گئی اور پھر ان دیناروں کو چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں پیک کر کے فقراء پر تقسیم کر دیا گیا اصل میں بات یہ تھی جس کو وہ لوگ اللہ کے رسول ﷺ سے سن چکے تھے کہ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْفُقَرَاءُ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِخَمْسٍ مِائَةٍ عَامٍ کہ محتاج لوگ مالدروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے اس لئے کہ حساب کتاب دینے کی ان کو ضرورت ہی نہیں رہے گی جتنا زیادہ مال اتنا زیادہ حساب و کتاب دینا پڑیگا مال بنانے میں بڑا اچھا لگتا ہے لیکن جب وہاں کہا جائیگا کہ ذرا ٹھہر جاؤ تو وہاں سب کی ہو انکل جائیگی۔

مال کا حساب بھی دینا ہوگا

حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ لَا يَزَالُ قَدَمًا إِبْنِ اَدَمَ حَتَّى يُسْئَلَ عَنْ خَمْسٍ کہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے بندے کے قدم نہیں ٹل سکتے یہاں تک کہ وہ پانچ سوالات کے جوابات نہ دے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہو گا کہ مال کہاں سے لایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا؟ بتاؤ اب کیا ہو گا اب اگر حلال طریقہ سے لایا ہے لیکن خرچ صحیح نہیں کیا تو اس کا جواب دینا اس کے لئے بھاری پڑیگا۔ اور ایک سوال ہو گا کہ زندگی کہاں گزاری دوسرا سوال یہ ہو گا کہ نوجوانی کہاں گزاری، تیسرا سوال ہو گا کہ مال کہاں سے کمایا تھا؟ اور چوتھا سوال ہو گا کہ اس کو

کہاں خرچ کیا؟ پانچواں سوال ہوگا کہ جتنا جانتا تھا اس میں سے کتنے پرتو نے عمل کیا؟

اورنگ زیبؒ کا واقعہ

حضرت اورنگ زیبؒ کا نام آپ نے سنا ہوگا انہوں نے اسلام کی بہت خدمت کی، اور مغلوں نے تو دہلی کا لال قلعہ بنایا، کسی نے کچھ بنایا کسی نے کچھ۔ لیکن انہوں نے اللہ کے دین کی خوب خدمت کی ان کے نام کو سن کر کفار لرزہ بر انداز ہو جایا کرتے تھے۔ میرے استاذ مختار حضرت مولانا سید ذوالفقار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے اورنگ آباد ہی کے بیان میں فرمایا تھا کہ مغل بادشاہوں کے دلوں میں اسلام کی قدر و قیمت نہیں تھی اس لئے تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ چھ سو سال کے اندر کسی بھی مغل بادشاہ نے اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کی، حج بیت اللہ نہیں کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ جس کو طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی کو اپنے گھر بلا تے ہیں۔

میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ آپ کبھی ہندوستان جائیں اور آپ کو دیکھنا ہو تو آپ کبھی احمد آباد جائیے، احمد آباد کے اندر ایک مسجد ہے وہاں مسجد کے اندر ایک چھوٹا سا میوزیم ہے، اس میں مولانا اورنگ زیبؒ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی ٹوپی موجود ہے اور اورنگ زیبؒ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن بھی موجود ہے، وقت کا بادشاہ ہے وہ چاہتے تو بیت المال میں سے پورا پیسہ لے سکتے تھے وہ چاہتے تو بڑی بڑی تنخواہیں لے سکتے تھے اور سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن اپنے ہاتھ سے ٹوپی بناتے تھے، اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھتے تھے، اس کو نیچ کر اپنے گھر کا گزران چلاتے تھے، انہوں نے انتقال کے وقت وصیت فرمائی کہ میری سلی ہوئی ٹوپیوں کی قیمت چار روپیہ پانچ آنے

آئے گی اسی میں سے میرے کفن کا نظام کرنا اور میرے اپیٹل بٹوے کے اندر چار سو تیس روپیے رکھے ہوئے ہیں جو قرآن لکھا تھا اس کو فروخت کرنے کے بعد ملے ہیں اس رقم کو فقیروں کے اوپر خرچ کر دینا یہی میری پوری دنیا ہے با دشاد انتقال کر رہا ہے اور اس کی پوری دنیا یہی کل روپیہ ہے۔

فلکری انقلاب کردار کو بلند کرتا ہے

حضرت عامر بن سعیدؓ اور حضرت مولانا اور نگ زیبؒ ان دونوں کے واقعات کو نقل کر کے اصل جملہ جو میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب دل کی دنیا بدلتی ہے اور فلکر کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے تو پھر آدمی کے کردار کے اندر بھی بلندی پیدا ہوتی ہے جب دل کی دنیا سنوار جاتی ہے اور آدمی کے ذہن و دماغ کے اندر راز تبدیل آجائی ہے اور وہ غلط راستہ سے خشیت خداوندی پر آ جاتا ہے تو پھر اس کے کردار میں بلندی آتی ہے اور اگر کسی قوم نے اپنی فکر و نظر، اور اپنی سوچ کو دنیوی حدود سے آگئے نہیں بڑھایا تو پھر اس کے کردار میں پستی آتی ہے، اور پھر وہ قوم کافروں جیسی زندگی بس رکرتی ہے کہ انہیں دنیا سے آگے کسی چیز کے بھی سوچنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان واقعات سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائیں اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال عطا بھی فرمائے تو اس کو ہضم کرنے کی طاقت بھی نصیب فرمائے، تا کہ قیامت کے دن جواب دینا ہم سب لوگوں کے لئے آسان ہو جائے، وہاں تو ٹھنڈے پانی کا بھی حساب دینا پڑے گا، اور جو بھی مشروب پیا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا اس لئے اپنے گھر کی بیویوں کا بھی ذہن یہ بنانا چاہیے کہ وہ مال کے پچھے، کپڑوں کے پچھے گھر کے

فرنجپر کے پیچھے اور دنیوی عیش و عشرت کے پیچھے اتنی نہ لگیں کہ قیامت کے دن ان کو اور ہم کو جواب دینا بھاری ہو جائے دنیا بقدر ضرورت بسانے سے کسی کو انکار نہیں ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خود دنیا بن جائیں اس لئے کہ ہم سب کو دنیا کے لئے نہیں پیدا کیا گیا ہے بلکہ دنیا کو ہمارے لئے پیدا کیا گیا ہے اس سے ہمیں خدمت لینا ہے اور خادم کو تمنی دریگھر میں رکھا جاتا ہے جتنی دیر کہ ہمیں اس سے خدمت لینا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان حفاظت کو سوچنے کی سوچ کراس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔

وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين